

أَلَّا يَأْتِيَ اللَّهُ لَحْوُفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بِجُنَاحٍ نُونٌ ه

موسیٰ الازدراج

1970

۱۳۱۳

آرائشہ سیدہ پروین کاظمی

أَلَا إِنَّ أَوْلَيَاءَ اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَحْرَنَّ نُونَةً

موسیٰ الازدراج

1970

آرائشہ سیدہ پروین کاظمی

۱۳۰

سلسلہ مطبوعات شاہ ابوالحیرا کاظمی دری

نمبر ۶

موسیٰ الاروان

تصویف

جهان آراییکم دختر شاہ جهان صاحب قران ثانی

مع مرکز و بصره

آراستہ

پروین کاظمی بنت سید نظام الدین احمد کاظمی

نشر شاہ ابوالحیرا کاظمی

6/..... درج

قیمت

مُقید:- خانقاہ حضرت شاہ ابوالحیرا بازارِ خلیٰ و بردی

1970

حضرت مسیح رحمات کتاب

صفحہ ۳

۸۴۱۶۵

۱- اباجی کے حضوریں (انتساب)

۲- پیش لفظ

۳- تذکرہ و تبصرہ

۴- بُوحِ مزار جہاں آرائیکم

۵- نعمتِ سرو رکائیات از خواجہ عین الدین سخنی

۶- آغازِ کتاب موسی اللارواح

۷- شجرہ عالیہ خانوادہ چشتیہ

۸- ذکرِ احوالِ سعادت مآل حضرت خواجہ عین الدین سخنی

۹- ذکرِ مبارک حضرت خواجہ قطب الدین سختیار کاکی

۱۰- ذکرِ مبارک حضرت شیخ حمید الدین ناگوری

۱۱- ذکرِ مبارک حضرت شیخ فرمید الدین مسعود گنج شکر

۱۲- ذکرِ مبارک حضرت خواجہ نظام الدین محمد بدراوی

۱۳- ذکرِ مبارک حضرت خواجہ امیر خسرو دہلوی

۱۴- ذکرِ مبارک حضرت خواجہ تصیر الدین محمود

۱۵- خاتمه کتاب

۸۲۷

۱۶- ذکرِ حضوری و تدریانہ عقیدت

۸۸۵

۱۷- تاریخِ رحلت حضرت خواجہ غریب نواز سلطان (ہند منظوم)

۹۴۸۹

۱۸- تمثیل مزارات وغیرہ

آباجی کے حضور مدرسین

★ جن کا نامِ نامی حضرت شاہ ابو الحسن زید فاروقی نقشبندی

مجدی ہے۔

★ جن کی مربیانہ اور بزرگانہ شفقت و محبت مجھے اختناص
بنخواکہ "آباجی" کے پیارے نام سے آپ کو یاد کرنی اور تشریف
حضوری پاتی ہوں۔

★ اللہ تعالیٰ آپ کے نیپس سیکریاں اور عما یہ عطا طفت کو تاذیر قائم رکھے،
★ میں اسی تاچیز کا دش کو جو مولانا لارواح کی جدید تدبیث
تذہیب اور صحیح و طبیعت کی صورت میں پیش نظر ہے، بجمال
ادب و عقیدت حضرت والا کی خدمت میں پیشیں کرنے کی
سعادت حاصل کرنی ہوں۔

"وَكُلْ أَفْتَرْزَ مِنْ عَزْ وَشَرْفَتْ"

خواں شعیین

پروینہ کاظمی

پیش لفظ

رحمت انتساب بجتنب کا کب صاحبته الزمانی تواب جہاں آرائیکم کی
پیش لنظر کتاب موسیٰ الارواح سلیس اور فصح تشریکاری کا ایک نادر الوجود
علمی و ادبی شاہر کار ہے۔ بندرگان خانوادہ چشت کے حالات باہر کات اور
ملفوظات طبیبات کو اس کتاب میں زبان و بیان کی جن خوبیوں کے ساتھ
پیش کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

میں نے پہلی مرتبہ موسیٰ الارواح کا ایک خوش خط قلمی نسخہ مخدوم محمد
حشمت الانشاہ زید ابو حسن فاروقی مجددی سجادہ تشیین درگاہ زیدۃ العارفین حضرت
شاہ ابوالخیر قدس سرہ کے گرانقدر ذاتی کتاب خانہ میں دیکھا تو مصشم ارادہ کر دیا
کہ اس کتاب کو پورے اہتمام کے ساتھ شائع کیا جائے کوئی مطبوعہ نسخہ خاصی
جستجو کے بعد بھی نہ مل سکا اس لئے متعدد قلمی نسخوں کو سامنے رکھ کر ایک صحیح اور
کامل نسخہ خود تیار کیا۔ اس کام میں پر وین اختر سلمہ امیر ساتھ رہیں اور جہاں آرا
بیکم کے حالاتِ زندگی کی ترتیب و تالیف توجہ انہی کے ذوق سلیم اور
عزم صمیم کا نتیجہ ہے جس کے لئے وہ مستحق تحسین ہیں۔ — یقین ہے کہ
موسیٰ الارواح کا یہ مکمل اصلاح نسخہ جس کو پر وین کاظمی پیش کر رہی ہیں قدر شناسی
اور حسن قبول سے محروم نہ رہے گا۔

خاکسار
سید نظام الدین احمد کاظمی

۵ ارشوال ۱۳۹۰ھ
۱۹۶۰ء

تل کرلا و تکرلا

جهان آر اہنگستان جنت نشان کے عالی و تدر بادشاہ
محمد شہاب الدین صاحب قرآن ثانی معروف بے شاہ جہاں کی عزیز ترین
صاحبزادی تھیں اور بیگم صاحبے معزز لقب سے یاد کی جاتی تھیں۔

۲۱ صفر ۱۰۲۳ھ کو ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام رحمند
بانو تھا جو ممتاز محل کے خطا سے سرفراز و ممتاز تھیں۔ تاج بی بی کا وضہ
جس کو ”تاج محل“ بھی کہتے ہیں ممتاز محل اور شاہ جہاں کا مدفن و مقبرہ ہے۔
تاج محل کی عمارت عجائبِ عالم میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے
یہ عمارت ہندوستان کے مشہور شہر آگرہ میں واقع ہے جسے پہلے ”اکر آباد“
کہتے تھے، یہی دہ شہر ہے جس کو مغل عظیم کا پایہ تخت اور دارالسلطنت
ہونے کا فخر حصل تھا۔

جهاں آر ابیکم کے حسن سیرت اور بیوی صورت کا اعتراف ان کے
اکثر معاصرین اور مورخین نے کیا ہے خود شاہ جہاں بادشاہ جو مر جمع احترام
و عقیدت تھے اپنے سب بچوں سے زیادہ ان سے مجبت کرتے تھے۔
جهاں آر ابیکم نے اپنی ساری زندگی شفیق و مہربان والد کی خدمت و
اطاعت میں صرف کر دی۔ تا اینکہ خدمت گزاری اور اطاعت شعاری

کے گھرے احساس اور اس کی سبجا آوری کے شوق نے ان کو ازدواجی ندی کی کی مسروتوں سے بھی دور رکھا۔

جہاں آرابیگیم کی تعلیم و تربیت اعلیٰ درجے کے قابل دلائل استادوں اور ایالیقون کی تحریکیں ہیں ہوئی۔ انہیں متعدد علوم و فنون میں خاصی ہمارت تھی۔ ان کا بلیٹری و قلم ڈھونوں و اخلاق، سیر و تاریخ اور ادب اشمار کی عمدہ کتابوں کے مطابعہ میں گزرنا تھا۔ وہ ایک بلند پایہ اشمار پرداز اور خوشگوشاً غرہ تھیں۔ سلاست و فصاحت ان کی شروع نظم کا خاص جوہر ہے تصنیف و تالیف کا صحیح ذوق اور ملکہ ان میں موجود تھا۔ ان کی نظر کتاب محب نس الارداح اس کا بین ثبوت ہے۔

خطاطی اور خوشنویسی میں بھی انہیں کامل دستکاہ تھی۔ صوفیاء کرام اور بزرگانِ دین سے سچی عقیدت رکھتی تھیں اور اس عقیدت و ارادت میں مادم آخراض افادہ ہی ہوتا رہا۔ صالحین دا کابرِ دین کی اسی والہانہ عقیدت نے انہیں موس الارداح کی تصنیف پر آمادہ کیا چنانچہ کتاب کے خاتمه میں لکھتی ہیں:-

”کمالِ تلوص و عقیدت نے اس فیقرہ کو آمادہ گیا کہ حضرت پیر دستیگیر (خواجہ عین الدین حشمتی) اور آپ کے علفاء بزرگ کے حالات قلمبند کر دیں۔ الحمد للہ کہ خدا رَ علیم و قادر یکے فضل و کرم اور پیر دستیگیر کی عنایت سے مجھے اس مقصد میں کامیاب تھیں (موس الارواح صفحہ ۸۲)“

لاریپ کہ موس االرداح بزرگان سلسلہ حشمتیہ کے حالات میں ایک بلند پایہ اور قابلِ قدر کتاب ہے۔ اختصار و جامعیت کے ساتھ حسن بیان اور سلاست نہ بان اس کتاب کے خصوصی اوصاف ہیں۔

موس االرداح کا سیال تالیف ۹۷۹ھ ہے۔ اس وقت جہاں آرابیگیم کی عمر ۲۷ سال تھی، کتاب کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ حسن و رعنائی کا یہ پیکر جمیل جس کا نام نامی جہاں آ رہا ہے۔ عالمہ شبیہ میں بھی اخلاق و کردار کی اعلیٰ صفات سے آ رہتہ، بزرگان دین کی محبت و عقیدت سے سرشار اور علم و عرفان کی لائے وال گتمتوں سے مالا مال تھا۔

موس االرداح میں اس حقیقت کو انہوں نے خود اس طرح

تحریر کیا ہے:-

”فرالفن اور واجبات کی ادائیگی اور تلاوت کلام مجید کے بعد ان ضعیفہ کے نزدیک کوئی کام بھی اولیاً کرام کے پاکیزہ حالات اور ان کے درجات و مقامات بیان کرنے سے بہتر نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اپنے خاص اوقات کو ایسی کتابوں کے مطالعہ میں صرف کرنی ہوں جو بزرگان دین اور صاحبانِ لقین کے احوال سعادت مآل پر مشتمل ہیں۔“

(موس االرداح صفحہ ۸۳)

جن عنطیم المرتب مشارخ چشت کے حالات و ملفوظات جہاں آرابیگیم نے موس االرداح میں لکھے ہیں، ان کے اسماۓ گرامی درج ذیل ہیں:-

۸

۱۔ پرستگیر خواجہ بزرگ حضرت خواجہ میں الدین حشمتی سنجھی احمدیہ
 ۲۔ قطب لاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین سختیار کاکی اونسی حشمتیہ
 ۳۔ حضرت شیخ حمید الدین ناگوریہ
 ۴۔ حضرت شیخ فخر الدین معروف بہ گنجشاکرہ
 ۵۔ حضرت شیخ نظام الدین محمد معروف بہ محبوب الہیہ
 ۶۔ حضرت شیخ نصیر الدین محمود معروف بہ روشن چراغ دہلی
 کتاب کے مندرجات کی صحت و صداقت کے بارے میں جہاں
 آرابیگم نے لکھا ہے :-

” ان بزرگوں کے حالات پوری احتیاط کے ساتھ معتبر کتابوں اور
 رسائل سے اخذ کئے گئے ہیں اور جو کچھ موسالارداح میں لکھا
 گیا ہے، میرے نہ دیکھ وہ صحیح اور حقیقت پر مبنی ہے، یقین
 ہے کہ قارئین کو اس سے کافی فائدہ حاصل ہو گا۔“

(موسالارداح صفحہ ۸۲)

موسالارداح قدیم اصولِ تصنیف کے اعتبار سے نہایت قابلیت کے
 ساتھ لکھی گئی ہے۔ تبیان و بیان کی سلاست اور شیرینی کے کیا کہنا۔
 بے احتیاط زبان پر یہ شعر دل کی آواز بن کر آ جاتا ہے
 دامان نظر تنگ و گل حسن تو بیار

کاچیں بہارِ تونہ دامان گلہ دار د
 جن امور کا بیان بزرگانِ دین اور اولیاء کے کرام کی حیاتِ مبارکہ کے

ذکر میں ہونا چاہیئے وہ سب بڑے سلیقہ اور عمدگی کے ساتھ قلمبند کئے گئے ہیں بلکہ میر اخیال تو یہ ہے کہ حالاتِ زندگی کی تحقیق اور واقعاتِ تاریخی کی تنقیح کا جو طریقہ جہاں آرابیکم نے موسن الارواح میں اختیار کیا ہے، وہ نقد و تحقیق کے جدید اسلوب سے بھی بہت قریب ہے۔

مشايخِ کرام کے جو ملفوظات و بدایات نقل کئے ہیں اور سلوک و تصرف کے جن رموز و نکاحات کو آسان اور دل نشین انداز میں پیش کیا ہے اُس سے جہاں آرابیکم کی نکتہ رسی اور عرفانِ آگہی کا ثبوت متساہیہ ہے۔ تاریخی حقائق کی وضاحت کی عالمانہ طریقہ پر کی ہے، اجمیر کی وجہ سماںیہ وغیرہ کے متعلق لکھتی ہیں:-

”اجمیر کی وجہ سماںیہ یہ ہے کہ ”آجا“ ایک راجہ کا نام تھا جس کی حکومت غزنی کے حدود تک پہنچی ہوئی تھی اور آجا ہندی زبان میں پہاڑ کو بھی کہتے ہیں۔ پہاڑ پر سب سے پہلی دیوار جو ہندوستان میں بنائی گئی وہ اجمیر کے پہاڑ کی دیوار ہے اور سب سے پہلا جو فرض جو ہندوستان میں بنایا گیا وہ ”پیشکر“ ہے۔ یہ اجمیر سے چار کو سس کی دوسری پرواقعہ ہے۔“

سلطان المہندس حضرت خواجہ عین الدین اجمیری قدس اللہ سماںہ العزیز کے احوال مبارکہ میں بعض موخرین نے لکھا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہ کھی لیکن اُس باب میں جہاں آرابیکم کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کی اولاد تھی اور اس ضمن میں انہوں نے موسن الارواح میں سیمر حاصل تصریح کیا ہے۔

جہاں آرائیکم عمدہ ترین نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجہ کی سخن گواہ سخن سخن بھی تھیں موسیں الارواح میں جو اشعار حمد و نعت اور منقبت میں انہوں نے لکھے ہیں وہ ان کے اپنے اشعار میں اور علم و فکر و نظر اور وسعت علم پر دلالت کرتے ہیں۔ ان اشعار کو پڑھ کر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شاعری خیال میں وسا غر کی گند رکا نہیں بلکہ حقیقت و معرفت کی جلوہ گاہ ہے۔

حمد و نعت اور منقبت کے اشعار موسیں الارواح کے ابتدائی ادراق میں موجود ہیں۔ اس لئے یہاں ان کا نقل کرنا بغیر ضروری ہے کہ افسوس کہ معاصر نہ کرہ نویسیوں نے جہاں آرائیکم کے اشعار نقل نہیں کئے صرف منتسبی سیل چند مصنف ”تاریخ آگرہ“ نے ان کے ایک مرثیہ کے تین شعر نقل کئے ہیں۔ یہ مرثیہ انہوں نے اپنے والدہ ماجد شاہ جہاں پادشاہ کی وفات پر کہا تھا۔

ای آفتابِ من کہ شدی غائب از نظر
آیا شبِ فراق ترا ہم سحر بود!

ای بادشاہِ عالم و ای قبائلہ جہاں
بکشاہی چشمِ رحمت و برحالِ منگر
نامم چنی ی ز غصہ و بادم بود بدست
سو زم چو سمع در غم دودم رو دزسر

جہاں آرائیگم کے اعلیٰ علمی ذوق اور پاکیزہ مذاقِ شعر و سخن کی معتبر شہزادیں اور ان کی بخشش و عطا کے متعدد واقعات تذکرے کی کتابوں میں ملتے ہیں۔

”ریاض الشعرا“ اور ”خزانہ عامرہ“ میں فرموم ہے کہ جہاں آرائیگم
مرتبہ بر قعہ پہنچے ہوئے یاغ کی تفریح کے لئے گئیں۔ راستہ میں لمبی
صیدی طہرانی کا مکان تھا۔ یہ حضرت بالاخانہ پر چڑھ کر جمالِ جہاں آرای
کا جائزہ لینے لگے۔ جہاں آرائیگم بر قعہ میں دیکھ کر صیدی نے برجستہ کہا
اور خوب کہا۔

بر قع پر خ افگندہ بر دناز پیاش
تائیکھت گل بخیتہ آپرہ دماغش
پھر اس شعر کو مطلع بنانکر پوری غزل اسی قافية اور ردیقت میں
کہہ ڈالی جو صیدی کے دیوان میں موجود ہے۔
جہاں آرائیگم کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے صیدی
کو پانچ ہزار روپے لبطور انعام اپنے خزانہ سے دلوانے، لیکن سانحہ ہی
شہر بدر ہونے کا حکم بھی صادر ہوا کہ بالاخانہ پر چڑھ کر حوری چوری جہاں آرای
بیگم کو دیکھنا صیدی کا ایک سگ ناخانہ اور حرم شاہی کے داب و آداب
کے منافی تھا۔

مولانا غلام علی آزاد بلکرامی نے ”تذکرہ ید بیضیا“ میں لکھا ہے کہ
میرزا محمد علی ماہر نے جہاں آرائیگم کی مدح میں ایک مشنوی پیشی کی تو

اس شعر پر پاہر کو پانچ سور و پے انعام میں ملے :-
بِذَاتِ توصیفاتِ کردگار است

که خود بعہاں فیضش آشنا کار است

میرزا حسن بیگ قزوینی نے جود را رشا بجهانی کا ممتاز منصبدار
اور رشا عزت خواہ ایک ملتوی "شا بجهان آباد" کی توصیف میں لکھی۔ اس
ملتوی میں پانچ حیات بخش کی تعریف میں جو اشعار کہے گئے وہ خاص
طور پر جہاں آراؤ کو پسند آئے۔ اس کے صلہ میں حسن بیگ کو پانچ سو
روپے عطا کئے گئے۔

۳۷۰۰ءہ میں حشنِ شاہی کے موقع پر جہاں آرا کے کپڑوں میں آگ
لگ گئی اور وہ بُری طرح جل گئیں، چونکہ اس موقع پر تمام عماں دی سلطنت
و جنگوں تکے اس لئے انہوں نے شرم و حیا کی وجہ سے اس شدید صدمہ کو
نہایت ضبط و تحمل کے ساتھ برداست کیا کہ مبادا اس حالت میں
انہیں کوئی نامحرم دیکھ لے۔

یہ الم انجیز واقعہ ان کی زندگی کا ایک عظیم حادثہ تھا۔ جب وہ
صحتیاب ہوئیں تو حاجی محمد جان قدسی نے ایک پُر زور قصیدہ پیش کیا
جس کے اس ایک شعر کے صلہ میں جہاں آرابیگم نے قدسی کو پانچ ہزار
روپے عطا کئے۔

تاسرزدہ از شمع چتیں بے ادبی
پروانہ ز عشق شمع را سوتھہ است

جود و سخا کے ان واقعات کے علاوہ، جہاں آرائیگم کے دینی اور علمی شغف و انہما ک کا اندازہ لکھنے کے لئے ان کا یہی ایک کارنامہ بہت کافی ہے کہ شہر آگرہ (اکبر آباد) کی عظیم الشان جامع مسجد انہوں نے تعمیر کرائی اور اس کے ساتھ ہی تعلیم قرآن اور علوم دینیہ کا ایک بڑا مدرسہ بھی قائم کیا، جس سے مدت دراز تک ہزاروں تلمذ کاں علوم سیراب ہوتے رہتے۔ اور جامع مسجد تو آج بھی اپنی پوری شان و تقوت کے ساتھ جہاں آرائیگم کے عمل صالح اور ایمانِ محمد کا اعلان کر رہی ہے۔ جہاں آرائیگم کے علمی ذوق اور تصنیف و تائیف کی قابلیت کے ضمن میں ان کی ایک اور بُنی کاوش "صاحبیہ" کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ رسالہ اگرچہ تلاش و تجویز کے باوجود نسبت متعجب ہے مل سکتا ہم اور نہیں کانج میگزین (علی گڈھ) میں اس پر ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں معلوم ہوا کہ "صاحبیہ" میں جہاں آرائیگم نے اپنے پروہر شدہ ملاشاہ بدستی کے حوالہ عقیدت و احترام کے ساتھ قلمبند کئے ہیں۔ آخر میں کچھ اپنے حالات اور اشعار بھی لکھے ہیں۔

مضمون نگار کے بیان کے مطابق یہ رسالہ (۱۹) اور اق پر مسلسل ہے۔
ہر ذی روح کو ایک دن موت کا مزہ پکھنا ہے۔ یہ ایک مسئلہ
حقیقت ہے۔ جہاں آرائیگم بھی اس حقیقت سے دوچار ہوئیں اور
بتاریخ ۲۷ ماہ رمضان المبارک ۱۴۰۲ھ مطابق ۱۸۸۹ء بمقام دھلی۔
تقریباً ستر سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت اور تک زیب

عالیگیر پندرہ سو سال کے تخت شاہی پر جلوہ افروز تھے۔ لیکن جہاں آرابیگم کی وفات کے وقت وہ پرانپور (دکن) میں فروش تھے۔ جب انہوں نے اپنی ٹوپی بہن کے استقال کی خبر سنی تو بہت رحیدہ اور عالمگیر نے جہاں آرا بیگم کی تجویز و تکفین کے تمام انتظامات شاہی طریقے پر کئے گئے اور زمین تک دارالسلطنت میں مکمل سوگ منایا گیا۔ اس نیک سیرت اور فقیر منش شہزادی کا مقبرہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء حکمة اللہ تعالیٰ علیہ کے مزارِ اقدس کے پائیں میں واقع ہے۔ بہترین اور قیمتی سنگ مرمر کا یہ جالی دار مقبرہ خود جہاں آرابیگم نے اپنی زندگی میں تعمیر کرایا تھا۔ قبر سنگ مرمر کی ہے لیکن تعویذ قبر خام ہے جس میں گھاس اُگ رہتی ہے۔

جہاں آرابیگم کی توحیح مزار پر جو عبارت اور شعر کردہ ہے
وہ صفحہ پر ملاحظہ فرمائیے۔

لَوْحِ مَزَارِه

هُوَ الْحَمْدُ لِلْقَيْوَمِ

یغایر سبز کا نپوشد کسے مَزَارِ مَرَا
کہ قبر پوش غریبان ہمیں کیا کہ بیس ست
الفقیرۃ الفانیۃ جہان اڑا بیگم مرید
خواجگان چشت بنت شاہ جہان بادشاہ
غازی انار اللہ برهانیہ سالہ ۱۹۹۳ھ

عبارت کے پرداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ شعر اور عبارت دونوں جہاں آرائیم
کے اپنے ہیں، جو انھوں نے اپنی حیات میں لوحِ مزار پر کندہ کرتے ہوں
گے۔ صرف سالِ وفات بعد میں کندہ ہوا، ورنہ جہاں آرائیگم کے نام کے
ساتھ ”الفقیرۃ الفانیۃ“ کے الفاظ لوحِ مزار پر نہ لکھے جاتے۔

خالکسار

پروین کاظمی

۲۰-۱۰

نعت سرور کائنات علیہ السلام

ای تو سلطان دار ملک و جو د
 بهم سه عالم طفیل تو مقصود
 هر کسی خور و جو د تویی !
 که پر ترقا کم است هر چو جو د
 شده جام جهان نهایی نولت
 مظہر اسم شاهد و مشهود
 چنان چانت دوده صیقل غش
 ال برامی نبیور نوی شهرهود
 زاویت نام ازان محمد شد
 کامنت راست عاقیمت محمود
 گرملک هر کشیده خدمت تو
 همچو اپلیس می شود مردود
 می فرستد هر چین درود به تو
 حق تعالی بہ او شود خوشنود
 داز خواجه معین الدین حشی سخنی قدس سرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 حَمْدُو سَيِّاسٍ افزوں از عدد و شمار مر صانع کر کی راحل جلال
 که بقدر دست کامله خویش جمیع رسول و انبیاء را ہادئی فرقہ امام کرد اپنے دو
 شکوہ ستائیش برویں از حد و اخیمه مرحوم حقیقی راعم نواحی که بصفت شامله
 خود مشائخ دا ولیا را مقتدا رو پیشوائے اہل اسلام ساخت۔ خداوند،
 ملکا، بادشاہا ہرگاہ زبان انبیاء تے رسول د فرشتہای مقرب ازاوائی
 حمد و ثنای تو عاجز باشند۔ ایں ضعیفہ راجہ یارالله در وصفی تو زبان تو اندر
 کشاد ریاحونی از کتاب حمد تو تو اندر خواند

آنجا کہ کمال کبریائی تو بود عالم نمی از جر عطا ای تو بود
 مارا چہ حد حمد و ثنای تو بود ہم حمد و ثنای تو مزاری تو بود

ای بو صفت بیان ما ہمہ یپیچ
 ہمہ آن تو آن ما ہمہ یمیع
 ہر چہ بلین خیال ما ہمہ یقص
 کے بلکہ خقیقت بر سیم
 وہ زار اس فعلوات نامیات و فراداں تسبیات راطبات بر وضہ مطہرہ
 سورہ حضرت رسالت پناہ رسول اللہ شما فندہ ماہ و نمائندہ راہ

بِهِرِ پَهْرِ رسالت، بِدِرِ فَلَكِ جَلَالَت، أَحْمَدِ مُجْتَبِي حَمْدِ صَطْفَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هـ
أَحْمَدِ مِسْلَكَه خَرْدَخَاكِ دَوْت، هَرْ دُجَاهَ لِسْنَتْه فَرَاكِ دَوْت

سُلْطَانِ رَسْلَكَه ازْ يَمْهَه پَاكَ آمد	ذَالشَّبِيبِ خَلَقْتَ اَفَلَاكَ آمد
دَرْشَانِ تَشْرِيفَه وَحَدِيثَه قَرَى	لَوَلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ اَلَافَلَاكَ آمد

وَبِرَآلِ كَرامَه وَاصْحَابِ عَنْظَامَ آن سَرْدَرِ إِنَامَ كَه بَهْرَكَيْ كُوكِبِ اَقْتَدا و
اَخْتَرا هَتَدا اَند، خَصْوَصَابِرْ چَهَارَ يَارِ بَرْزَگَه اَركَه چَهَارَ رَكَنِ عَالَمِ شَرْعَيْت وَچَهَارَ
دِلْوَارِ حَصَنِ حَقِيقَت اَند، نَازَلَ بَاد، اَوْلَاقِ اَفْضَلِ اَيْشَانِ سَرْحَلَقَه هَبَاجَرَه و
الْصَّارَه، مَخْصُوصَه بَآيَه اِذْهَافِي الْغَارِ مَخْزَنِ اَسْرَارِ تَبَوَيِ، هَبَطَ اَنوارِ صَطْفَوِي
حَفَرَت اَمِيرُ الْمُؤْمِنَيْنَ اَبُو بَكَرِ صَدِيقَه اَسْتَه

اَمِيرُ الْمُؤْمِنَيْنَ اَبُو بَكَرِ صَدِيقَه اَسْتَه	اَمِيرُ الْمُؤْمِنَيْنَ اَبُو بَكَرِ صَدِيقَه اَسْتَه
اَمِيرُ الْمُؤْمِنَيْنَ اَبُو بَكَرِ صَدِيقَه اَسْتَه	اَمِيرُ الْمُؤْمِنَيْنَ اَبُو بَكَرِ صَدِيقَه اَسْتَه
اَمِيرُ الْمُؤْمِنَيْنَ اَبُو بَكَرِ صَدِيقَه اَسْتَه	اَمِيرُ الْمُؤْمِنَيْنَ اَبُو بَكَرِ صَدِيقَه اَسْتَه

شَدَاعْلَمِ بَهْرَكَيْ رَاسَرْ لَعِيَّوِقَه	چَوْبَرْ حَكَتْ خَلَافَتْ رَفَقَتْ قَارَقَه
خُودَانِ عَدَلِ عَمْرَعَمْرَدَگَرِ يَافتَه	زَصَدِيقَه اَرْجَه عَالَمِ زَيَّفَه فَرَيَافتَه
وَسِيَومِ اَيْشَانِ مَعْدَنِ وَمَنْبَعِ صَدَقَه وَصَفَقا، جَامِعِ آيَاتِ قَرْآنِ مُجَيدَه	

جیبِ رسول خداً حمید حضرت امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ھے
 نہ ہی برس پھر فلک کو کے کے بودش ہی یودا ختر قرآن
 جہاں صفا، صوفی پاک رو امین زمین و امماں زماں
 دچھا م ایشان مخزن علوم ربائی، مور د فیوض آسمانی، علم د شجع
 اصحاب کبار اتفاقی و اوریع صحابہ نامدار حضرت امیر المؤمنین علی
 بن ابی طالب ھے

شیر نیز داں کن نہیب خنجرش خصم را بفتر دخول در خنجره
 بو راز آسیب و پیش از اجل جان زمین از غزانی غرغره
 رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین - اما بعد بدیاً نکله حضرت السبسحانہ
 و تعالیٰ وجود مسعود اولیا در اقدس اللہ اسرار ہم موجب ثبات استقرار
 عالم و عالمیاں گردانیده و از برکت سعادت انتظام ایشان روح اللہ
 ارواح ہم، جہاں و جہاںیاں راست قامت و مدار خشیده و جمیع فیوضات
 برکات از کمین انفاس منتهک رہ ایں گروہ والا شکوه از آسمان بزمیں می آیده
 ہر سعادت مندی کہ از روئی عقیدت خاص کمرا دارت و اخلاص ایشان
 بر میان جاں بستہ ازاں فیض بہرہ تام و فائدہ مالا کلام می رباید و حق
 جل مجدد و علاء دوستی دار دارت ایں فرقۃ علیہ را و سیلہ نجات مومنا و
 واسطہ وصول بد رجات جنان و موجب خلاصی از درکات نیران
 ساختہ و محض از کمال کرم انه لی و لطف لم نیز لی طریقہ پیری و مریدی و
 قاعده سلسہ ہارکہ مآل حال مسلمانان بدل انتظام دارد در میان

ایشان پدید آورده و ممینین و مومنات فرقه فرقه و گرده گرده بهر کیک از اسلسل
 متوحد مرلوب طاگردانیده دایس امر را سبب رستگاری در روز قیامت ساخته،
 چه در ای روز که در شان آن آیتہ یوْمَ يَفِرُّ الْمَرءُ مِنْ أَخْيَرِهِ وَأَهِمِّهِ وَأَبْيَرِهِ
 وَصَاحِبَتِهِ وَبَذِيلِهِ دارد است و مقدار آن روز بجز به پنجاه هزار سال
 خواهد بود و از اوع فرع و اهوال یا نسان روی خواهد بود آدرد، صفت یا شی
 مریدان در سایه پیران دین از ای اهوال ایکن خواهند بود، پس هزار ای
 حمد و شکر فراز ای و شنا و ستایش مرحوم خدا تے کریم و رحیم، تعالی و تقدس که
 حلقة ارادت و بندگی سلسله شریفه معظمه مکرمه چشتیه را که در مالک و سیده
 هند وستان یککه در کامی محوره جهان، رواج و اشتیار واردو بسی اولیائی
 بزرگ عالی مقدار و بسیاری از مشائخ کبار نامدار از ای سلسله علییه خاسته
 اند. در گوش دل اخلاص منزل ایں فقیر و حقیره بی بخاعت و ضعیفه و سخیفه
 بی استطاعت، راجیه از درگاه الله، جهان آراینت شاهجهان بادشاه غازی
 این جهانگیر بادشاه این اکبر بادشاه کرده این ضعیفه اگر پسر بزمور یانی داشته
 باشد از ادای شممه شکر ای عطیه عظمی و موهبت کبری عاجز است و ایں
 فقیره از کمترین مریدان عبودیت نشان حضرت قطب الاولیا، برگزیده
 درگاه ایزد تعالی، عارف و اصل، کامل مکمل غوث العارفین، غیاث الاسلام
 والمساعین، سروی مشائخ کبار، سر حلقة اولیائی نامداره

آن شاهنشاه جهان معرفت ذات او بیرون زادرگ صفت
 خسرو ملک فتابے تخت قتل از خود و از غیر خود بے اختیار

غرق بحر عشق از صدق و صفا
 از خودی بیگانه با حق آشنا
 کرد مرغ همت شن ز او رج کمال
 بیضه افلاک را در زیر بال
 اختر رنج سپهر لم بین
 گوهر در رنج کمال بی بدل
 آن معین دین و ملت بی نظر
 فارغ از دنیا بملک بین امیر
 در شناسی اور با نعم را چه حد
 فیض او باید که فرماید مدد
 عده الراسخین قدره السالکین شیخ الاسلام خواجہ معین الملته
 والحق والدین حسن حسینی سنجی حشمتی است قدس اللہ عزیز و آنحضرت
 مرید حضرت خواجہ عثمان ہارولی والیشاں مرید حضرت حاجی شریف زندانی و
 والیشاں مرید حضرت خواجہ ہود و حشمتی والیشاں مرید پدر خود حضرت خواجہ
 یوسف حشمتی والیشاں مرید خال خود حضرت خواجہ محمد حشمتی والیشاں مرید پدر
 خود حضرت خواجہ ابواصحہ ابدال حشمتی والیشاں مرید حضرت شیخ ابوالحق شامی و
 والیشاں مرید حضرت شیخ حمشاد علوی بنوری والیشاں مرید حضرت شیخ ہبیرۃ
 البصری والیشاں مرید حضرت خواجہ عبدالغیم مرعشی والیشاں مرید حضرت سلطان
 ابراهیم اویم والیشاں مرید حضرت خواجہ فضیل عیاض والیشاں مرید حضرت
 خواجہ عبدالواحد زید والیشاں مرید حضرت شیخ حسن بصری والیشاں مرید
 حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ والیشاں
 مرید حضرت شیرالبشر، رسول رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آله و سلم
 شجرة طيبة ایں سلسلہ مرتکبہ از کتاب سقینیۃ الاولیاء کہ تالیف
 برادر و نوشتار ایں حقیرہ کامگاری عالی مقدار، فری المعاشری والمقابری

عَاصِبُ بْنُ طَاغِيْنَ وَظَاهِرُ اِحْمَدُ سَعَادَتْ پَرْزَوَهُ سُلْطَانُ مُحَمَّدُ دَارَا شَكُوهُ مَدَائِدَ طَلَّا
 وَدَوَامِمُ بِقَارَهُ اَسْتَ نِقْلُ نَمُودَهُ چُولُ اِيْسَ فَقِيرُهُ خَوَدَهُ اَحْقِيرُ تِبَنُ مَرِيدَانُ
 آنَ حَضْرَتْ قَدَسُ السَّلَمَهُ الْعَزِيزُهُ مَيْدَانَدَهُ اَخْلَاصُ وَبَنَدَگِیْ بَدَرَ جَهَهُ اَعْلَى دَوْرَهُ
 قَصْوَى دَارَدَ بَنَابَنُ رسَالَى کَلِعْضَى اَزْمَشَاعَخَ مَنْقَدَمَينُ وَمَتَاخَرَنُ دَرَذَکَهُ
 اَحْوَالُ سَعَادَتْ اَشْتَهَالُ وَمَلْفُونَظَاتِ بَهْرَبَیْتَ آيَاتَ آنَ حَضْرَتْ نَوْشَتَهُ اَنَدَهُ
 هَمَيْشَهُ درَبَیْشَ نَظَرَدَ اَشَتَتَ وَازْمَطَالَعَهُ آنَ فَامَّهَ بَسِيَارَهُ نَمُودَهُ
 كَمَالُ اَخْلَاصُ وَتَهَبَیْتَ اَعْتَقَادُخَاسَتَ کَه اَنْهَرَ رسَالَهُ لَعْضَى اَزْمَفُونَظَاتِ
 اَرْشَادَسَهَاتُ وَاحْوَالُ وَمَقَامَاتُ عَالِيَّهُ آنَ حَضْرَتْ رَأَکَهُ خَوَانَدَگَانُ شَنْزُونَدَگَانُ
 رَا زَانَ فَيْضَ تَحَامُ وَهَرَهَهَ مَالَكَلَامَ حَالَ آيَهُ، جُدَانَمُودَهُ رسَالَهُ عَلِيَّهُدَهُ بَنَوَسَيْدَهُ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْمُتَنَّهُ کَه اَنْبَرَکَتْ رُوحُ مَطْهَرَهُ آنَ حَضْرَتْ وَبَمِنِ عَقِيدَتِهِ وَ
 اَخْلَاصُ خَوَدَرَهُ مَرْطَلَبُ اَعْلَى فَانِزَگَرَدَیدَ وَرسَالَهُ جَدَأَتَحَرَرَهُ نَمُودَهُ بِمَنَاسِبَتِ
 اَسْمَى رسَالَهُ کَه حَضْرَتْ پَرِدَسْتَكَيْرَ نَوْشَتَهُ آيَهُسْ الْأَرْوَاحَ "نَامَ
 کَرَدَهُ اَنْدَايَهُ مَرِيدَعَقِيرَتْ مَنَدَنَزَ رسَالَهُ رَامَوسَهُمْ بَهْ "مُوئِسُ الْأَرْوَاحَ"
 گَرَدَانَدَهُ، اَمِيدَوَارَاسَتَ کَه مَهْرَسَ کَبَشَتَیْ اَرَادَتِ چَشَتَیَانُ نَشِينَدَهُ، اللَّهُ
 سِيَاهَهُ وَتَعَالَى اوْرَا اَزْطَلَمُ اَمَواجَ بَحْرِعَصَيَانُ شَجَاتُ شَجَشِيدَهُ لِسَاحِلِهِ زَادَ
 رسَانَدَهُ رَجَاءِ وَاثْقَ اَسْتَ کَه عَنَایَتِ بَیِّ غَایَتِ پَرِدَسْتَكَيْرَ کَه درَبَارَهُ
 مَرِيدَانِ صَادَقَ الْاعْتَقَادَمَيْدَوَلَ اَسْتَ درَدَنَيَا وَآخِرَتَ دَسْتَكَيْرَهُ
 حَمَایَتَ اَيَسْ ضَعِيفَهُ رَاجِيَهُ سَمَایَدَهُ وَالَّهُ الْمَوْفَقُ فِي كُلِّ الْأَهْمَوْرَهُ

ذکرِ احوال سعادت مآل حضرت قطب الاقطاب سید الائمه
 نیر آسمان معرفت، غوث الاسلام و المسلحین، معین الملکه والحق
 والدین محمد الحسینی السنجری اپشتی قدس اللہ سرہ العزیز
 آنحضرت در شاخ کبار بمالات و مقامات علیہ شہرو رمرو فو
 در زهره اولیاً عالی مقدار اوصافات جلتیه موصوف بودند، دلادت باستعما
 حضرت الشیان روح اللہ وحہ در ولایت سجستان بوده و در دیار خراسان
 نشونما یافتہ اند، پدر بزرگوار آنحضرت، در دریا می سیادت، گوهر درج
 نقابت، نقاده دودمان نبوی سلاطین خاندان مصطفوی، صاحب ہدف
 تقوی، سالک طریق ہدی، قدوة المتور عین حضرت خواجہ غیاث الدین
 حسن، حسینی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بنیایت تقوی و صلاح آراء ستہ و
 غایت در دفع دلالح پیر اسٹے بودند، و قلیکہ الشیان بجو ای رحمت حق تعالیٰ
 پیوستند حضرت قطب الاقطاب پیر دستگیر پانزده ساله بودند وزیر ارشاد
 والدین بزرگوار باغی و آسیانی آبی بنا حضرت قدس اللہ سرہ العزیز رسیدہ
 بود حضرت پیر دستگیر محصل آنرا قوت خود دیگر داشتگان خود می نمودند
 گویند در ای مقام سعادت فرجام مجزوبی بود صاحب حال و کشف فکرات
 او را ابرا هیم فندزی می گفتند روزے بالهایم غلبی بارغ حضرت پیر دستگیر

در آمد آنحضرت در ختن بارغ را آب می دادند، چوں از آمدن ابراهیم قم و
گشتند، پیش رفته تو اضع و تعظیم بجای آورده دست او را بوسیدند و
در زیر درخت بنشانیدند و خود بادی تمام در خدمت ابراهیم نشستند،
ابراهیم پارچه کنجاره از بغل خود بیرون آورده در دهان خود آمد آخت و
دندازده از دهان ببرآورده بد دهان مبارک آنحضرت آنداخت، بمحیر ده
خود دن آن نوری در باطن شریف آنحضرت پیدا شد و محبت دنیا و ملکه
خانه بکلی از دل مبارک حضرت ایشان محو گشت و باغ داملاک را فروخته
بر فقر و مساکین نفقه کردند و از آنجام سافگشته بطرف بخارا و سمرقند رفتند
مدتی در آنجا بوده حفظ قرآن و کسب علوم ظاهری نمودند و ازان دیوار
عزمیت عراق عرب فرمودند، چوں بقصبه هارون که در لواحی نیشان پورا
رسیدند، خدمت ہادی طبق ولایت، واقف رموز مهابت، صاحب
کشف و ایقان، عالم مراتب عرفان، قطب آسمان صلاح و رشاد،
پدر فلک فلاح و سدا، مقتداری مسالک اسلام، موروفیض و هبیط
الہام شہر پار ممالک عراق، منظہر جود و منبع احسان حضرت خواجه عثمان
هارونی قدس اللہ سرہ العزیز را دریافتند و حضرت ایشان از آکا بریشاخ و
بنرگان اهل حقیقت بوده اند، چنانچه گویند وقتی در سفری گذر حضرت خواجه
عثمان هارونی قدس اللہ سرہ العزیز بمقام مقام افتاده در آسیا آتشکده بود
بغایت کلام چنانچه هر روز مقدار لبس ارادیه بیزیم در آن جی اند اختمند،
حضرت ایشان در حوالی آن آتشکده نزول فرمودند و خادم ایشان بجهت

افطار آرد آورده خواست که ازان آتش بیاردو تا نموجود ساند
 مغاز چوں داشتند که مسلمان است نگذاشتند که باشند که نزدیک شود و
 آتش بردارد، خادم آمد و حقیقت را عرض کرد، حضرت ایشان وضو خاتمه
 متوجه آتشند که شدند، مجیدتانا نام که سرگرد مغاز ابو لیپرے هفت ساله
 در کنار را شد، حضرت ایشان از وی پسند کرد که این آتش را چرامی
 پرسنی و دست است از پریش خدا مئے تعالیٰ که آتش دنیا و آنچه در دنیا است،
 عنمیون اوست باز را شنیده گفت در دین ما آتش را مرتبه عظیم است
 در قیامت ماران سوزد، ایشان فرمودند چند سال که آتش را پستیده
 توانی که دست خود را در آتش داری و ترانسوزد، منع گفت خاصیت
 آتش سوختن است، این کار نتوانم کرد.

حضرت ایشان طفیل را در کنار منع بود کشیده و در کنار گرفته متوجه
 آتش شدند، از مغاز فریاد برآمد که ای شیخ چه کار را است که ممکنی -
 حضرت ایشان پسحمر اللہ الرحمن الرحيم و آیه کریمه
 فَلَنَا يَأْنَارُ كُوئِيْ بَرْدًا وَ سَلَاهَ مَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَارْدَدَ أَبْدَهُ كَدِير
 فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْرَيْنَ " را بر زبان مبارک راندند و در آتشند و
 مدتی در آش آتش از نظر مردم غائب بودند، چند هزار کس از مغاز وغیر
 ایشان حاضر بودند، فریاد و فغا برآوردند، بعد از آن حضرت ایشان
 ازان آتش بد را آمدند، چنانچه اشیرد و در جامه همبا کرد آنحضرت و آن
 طفل پیدا نمود.

متعال ازاں طفل پر رسیدند در آتش چه دیدی رگفت از برکت شیخ
 غیر از کل و رحیما حین چنیزے دیگر ندیدم پو متعال ایں حالت دکرامت حضرت
 ایشان مستاہده نمودند تکمیلی از روئے اخلاص سر راست خود را به پائے مدبار کی
 ایشان نہادند وایمان آورده مسلمان شدند و آنحضرت مجتبیار اشیخ
 عبد الرسول آن طفل را براہیم نام نہادند و ایں ہر دواز او لبیا تے مکمل
 شدند و آتشکده خراب ساخته مسجد بنا کردند و حضرت ایشان دو نیم سال
 در ای مقام اقامست نمودند وفات حضرت ایشان خواجہ عثمان؟
 ہاروی در مکہ معظمه شانزد ہم شوال واقع شدہ - الفقصہ حضرت پیر
 دستگیر بخدمت حضرت خواجہ عثمان ہاروی رسیدہ مرید شدند و مدبت
 پیسبت سال و شش ماہ در خدمت ایشان بہریا صفت و محابا ہرہ
 گذراینده کار را یاتکام رسانیدند و سعید شد رسفر حضرت خواجہ خواب پیر
 خود را نگاہ میداشته اند - انگاہ بعمدت خلافت مشرف شدند و خرقہ
 خلافت از پیر خود پوشیده، رخدمت گرفته بقصبه سنجار آمدند و دو ماہ و
 پانزده روز در آنجا بوده بقصبه جیل رسیده، حضرت غوث القلین
 قطب ربانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلی را قدس اللہ سرہ دریافتند و
 قصبه جیل از بغداد ہفت روزہ راه است و آنحضرت پنج ماہ و هفت
 روز در صحبت غوث اعظم بوده اند، چنانچہ حجرہ متبرکہ ایشان در ای مقام
 سعادت فرحا متمحال ہست و از آنجا به سہمان واز ہمدان پیغمبرینہ
 رفتند و یا کا برا آنجا ملاقات نمودند نقل است از حضرت شیخ فرید الدین

مسعود گنجشکر قدس اللہ سرہ کہ فرمودہ اندہ از پیر خود حضرت خواجہ قطب الدین
 احمد بن موسی اوشی شنیدہ ام که می گفتند پیر مسن حضرت خواجہ عیین الحدائق
 والحق والدین رضی اللہ عنہ ریاضت و مجاہدہ عظیم داشتہ اند کچھ اپنے
 بعد از هفت روز بپارچہ نانے کہ انتخیع مشقیں باشیں بنو رسید پاپی
 ترساختہ افطار می کردند نقل است از حضرت شیخ نظام الدین بدلوی
 قدس اللہ سرہ العزیز کہ حضرت خواجہ بزرگ ما جماںہ در ذاتی اجنبیدہ
 زده می پوشتیدند، اگر پارہ می شد از هر چیز پارچہ کہ نہ پاک کئی یا فتنہ
 بدال پیوند می کردند و فوائد الفواد نو شعہ کہ من آں در ذاتی را دیدی
 ام۔ آخر آن جامہ به شیخ انظم الدین رسید، کو مید حضرت پیر دستگیر قرنی
 کہ از پیر خود حضرت خواجہ عثمان ہاروی خرقہ یا فتنہ، عمر مشیر ایشان ایشان
 پہ پنجاہ و دو سال رسیدہ بود و میشغولی عنیلیم داشتند و اکثر روز قدم تجویز
 تفریض سفر می کردند و بہر چالہ می رسیدند بلبیعتی در قیرستان می بودند و
 پرورد ختم قرآن می کردند و بہر چالہ اند کے شہرست می یافتند و کسی از حال
 آن حضرت می نطلع می شد و آنچا تو فتنی نمودند و میجنواستند کہ کسی
 داقتی عالی ایشان نشود و ازان طیار خوارق و کرامات اجتنان پکام داشتند
 حضرت خواجہ عثمان ہاروی قدس اللہ سرہ العزیز پیغمبر مسیح مسعود کہ معین الدین
 محبوب اللہ است دمار از مریدی او تفاخر و میباہت است -
 چوں آن حضرت اند پیر خود مرخص کردند سیر تقداد و تبریز و استرا با
 وہرات نمودند و مدستے در هرات اقامست داشتند و اکثر شب بہار لیقمعه

شریفہ شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ و روز بادر می گزرا تین دن و
 در یک موضع کم می بودند و غیر از یک خادم، ملازم آنحضرت بنودے و اکثر نماز
 فجر بوضوی عشا و میگذارند، چوں در شهر ہرات شهرت یافتند بسیز وار
 آمدند، حاکم آنجایا دگار محمد نام داشت و به بد اعتقادی و بد خلقی و ظلم
 مشهور ہو جد، آنحضرت بیانِ یادگار محمد رفتہ کنار حوض بنشتستان و او نیز
 بیان آمد، چوں حشیم او بحضرت پیر دستگیر افتاد در تمام حسیم اول رزہ افتاد
 بر رو افتادہ بھیوش شد و درست بمحبے بر جماعتی کہ یا او قیق بودند.
 مستولی گشت، آنحضرت آپ ہمارا حوض را بر رو لیش تند، بھیوش آمد و
 آنحضرت با او از بین فرمودند توبہ کردی۔ بعجز تمام گفت توبہ کردم، معلوم نشد
 کہ در اس حال چہ معاشرہ کر دکہ چنیں خوف و درست بر و غالب شد و
 جماعتی کہ یا او بودند سمجھی توبہ کر دند۔ آنحضرت فرمودند وضو کنید و دو گانہ
 شکر توبہ ادا نماید، چنیں کر دند و یادگار محمد با تباع خود مرید آنحضرت شد و
 آنچہ در ملک او بود سہ را بفقراً قسمت نمود وازا و اصلان حق گشت و حضرت
 پیر دستگیر از آنجایہ بلخ رفتند، در آنجا حکیمی بود ضیاء الدین نام او را بر این
 تصویف اعتقاد و اعتماد بنود و میگفت علم تصویف نہ دیا نے است کہ
 تب زرگان و مسالیب العقل نیبان می راند و صوقیاں را ہمیشہ یادیاد
 میکرد۔ گویند با فادہ میں آنحضرت پیوستہ دو دستہ تیر و کمان و چیقاتے
 و نکلا نے ہمراہ بودے و گاہے از آبادانے دور افتادہ در صحراها
 میگذرا تین دن، بجهت قوت شکار کرده باں لقمه یہ شبہ افطار میکر دند۔

روزے آں حضرت کلنگے شکار کر دہ بود نہ چوں داخل شہر شدند درجہ ایئکہ
 حکیم ضیام الدین درسِ علم حکمت میگفت، گذر آنحضرت در آنجا افتاد در
 تیر درخت نشستند و خادم با مرآت حضرت آتش آوردہ کلنگ را کتاب
 می ساخت و حضرت پیر دستگیر بـ نماز مشغول شدند حکیم را خواهش
 شد کہ در آنجا بنشیند و ازان کتاب نصیبیہ باور سد و ازم شاہدہ دیدار
 یا انوار آنحضرت اثرے عظیم در دل حکیم پیدا مہ بعد از فراغ نماز آنحضرت
 را سلام کرد و خادم کتاب بخدمت آنحضرت آورد، حضرت پیر دستگیر
 برخواهش حکیم واقف گشتند و نام خلاۓ بہرہ باں آوردہ رانے ازان
 کتاب مُحداً کردہ حکیم را دند و خود ہم مشغول تناول گشتند، حکیم مجرد
 خوردان کتاب از فلسفیات کہ در سینیہ او بود بیکباری زائل گشتند و
 انکار بنو را اعتقاد مبدل شد و حاشش داگر کوں گردید، دریں حال آنحضرت
 چیزی از دہان مبارک برآوردہ درد ہیں حکیم انداختن و ازان بخود کی
 بحال آمد و اسرار الہی بر حکیم منکشف گشته تمامی کتب فلاسفہ را در
 آب انداخت و خود را از تعلقات دینوی محجر دساخت و باشکردن
 خود تائی گشته مرید آنحضرت شد و حضرت پیر دستگیر از آنجا اعزیزیت
 غزنی فرمودند و ازان آنجا بخطہ لاہور تشرییت آوردند و ازان لاہور بہ دھلی
 آمدند و چند رو را آنجا آقامست کر دند چوں هجوم علی بیار شد، از
 آنجا متوجہ اجمیر گشتند و ہمدریں باب نقل است کہ چوں آنحضرت
 از خدمت پیر خود نعمت یافتہ و کار خود را تمام ساختہ رخصت شدند

بدگاه معظمه وقتند و از آنجا بجهت بیانیه مشترکه آتش را بیت برداشت و در ته در را بقوعه
 منوره مشغول بودند. روزی که از روضه هفتاد و پنجمین کریمه حضرت رسالت پیش از
 صلی اللہ علیہ وسلم آواز آمد که ای معاویه الدین حسن تو معاویه دین مالی. -
 ولایت هفتاد و سهستان بتوخواه شده بسر و در مقام اجمیر افغانستان نامی
 که کفر در را سبز میگیرد بسیار است از رفتگی تو در را ملک اسلام قوی
 خواهد شد و دین مسلمانی رونق خواهد یافت. - از استماع ایں آواز حضرت
 پیر دستگیر را جیرت دست داد که اجمیر کجا است، درین فکر ایشان را
 خواهید دید و بود و حضرت رسول آنام علیہ الصلوٰۃ والسلام را در واقعه دیدند
 حضرت سید الطسلیین در یک طرفه العین تمام عالم را با ایشان از شرق
 غرب نمودند و هر چه در دنیا است از شهرها و مقام ها در نظر آنحضرت
 در آمد و قلعه و کوه های اجمیر را با ایشان نشان دادند و یک انوار از بهشت
 سکونت دستگیر بخط انسودند و شرمودیدند اینجا پیر دکم چوں بیدار شدند
 عازمیت هند سهم ساختند و سعیر شیر گله و موضع کردند با آکار و مشائخ هنریار
 ملاقات نمودند می آمدند و از پاران جمل تن ملازم آنحضرت بودند و لشیئه
 آنچه سمعت اجمیر را شنیدند گویند در را وقت حالم اجمیر را جب بود
 پیغور آنام که از سعادت دین اسلام بیگانه بود و مادر ادراز علم بخوم خبر داشت
 رو از ده سال پیش از رسیدن حضرت پیر دستگیر را جمیر به پسر خود
 گفتند بود که هر دسته بزرگ پیدا شود که بسید بادلک و دلست
 تو زائل گرد در داریں بجهت پیغور از حمیشه نمودگیان می بود چوں مادر پیغور را

علیه مبارک آنحضرت را نوشتہ بپسخود داده بود. پھورا آن حلبیه را نوشتہ
 با بجا فرستاده هقر نموده بود که هر کس را یا این علیه وافق یا پنگ گرفته
 نمود او آور نمود چون آنحضرت بقلم عمامه شریف آور نمود بالاتفاق مردم
 پھورا پھر مبارک حضرت پیر دستگیر را یا این علیه وافق یافتند خواستند
 غدر کند، از راه تو اضع و تعظیم در آمدہ الشام نمودند که جانی مٹا بینے چیزیت
 ایشان معین کردہ ایکم. در آنجا فرود آیند. آنحضرت مراتب شدند و در رفع
 حضرت رسالت پناه صلح اللہ علیم و سلم را دید که می فرمایند اسے قیدیانی دانند
 قول ایں گروه را استوار را که می خواهند بتو هنضرت رسالت دار حضرت چیز
 دستگیر از ایشان خبردار شده آن جایست غدار را بازگردانیدند و در اتفاق
 که دیده بودند بیاراں نیا ہر ساخته بطریق اگیر رسیدند و نیجہ اسند که
 در سایه درختی بنشینند شخصی آوازه دادا کے در دریشان شتران را که
 پھورا در سایه ایشان درخت می نشینند جانی دیگر فرود آئید. عجزت
 پیر دستگیر فرمودند شتران را که پھور انتسته باشد و بیاراں کیا
 تال آنا ساکر منفصل کوہ در سایه درخت فرود آمدند خادمان گردانند
 ذبح نموده کباب می ساختند و بعده بجهت وضو گزاری حوض بیسان بند
 رفتند در ای وقت چند هزار بست خانه در کنار ایشان حوش بود و صد و هیج
 من روغن گل صرفت ای بست خانه هایی شده بمناساب خادمان آنحضرت را
 ازو حوض ساختن مانع آمدند و می گفتند رسالت مسلمانان که بایش حوض
 بر سدا آب مستعمل خواهد شد، پھول ایشان مقدس لعیض آنحضرت رسید

حضرت پیر دستگیر تمام آب آناساگر و بیسیل ہند را درایران خود پر کرد،
 چنانچہ ہر دو تال خشک شد و ہر جا کہ دران شهر و حوالی حشمہ و آب بود خشک
 گردید، بلکہ شیر پتا نہ ائے زنان بچہ دار و چهار پایاں ہم خشک گشت،
 و میگویند کہ جتنے بود کہ پیھورا و پدران او آن جن را پرستش می کردند و
 ذلت خود را از طفیل آں می دانستند و چند پرگنه را بجهت اخراجات
 او وقت محمود یودند، مجرد طلوع آفتاب دین اسلام دران سر زمین
 جن مذکور تر سال ولی زال خود را بخدمت حضرت پیر دستگیر مسانید و
 در پائے مبارک آن حضرت سرنہادہ ایمان آورد و ایشان اور اسلام
 ساخته "ستادی" نام نہادند القصہ چوں خیر آمد ان آن حضرت قضیہ
 خشک شدن آب ہا و لشنکی خلق دیر جلسے نشستہ ماندن شتران
 لا به پیھورا رساتیدند مادرش گفت ایں ہماں شخص است کہ حقیقت
 اور اپیش ازین بدو از ده سال آنکہ لیو و م زینہار با او میاحثہ و مقابلہ
 نکنید کہ شمار اسود مند خواهد بود و با او نیتعظیم و تو اضع پیش آسید
 پیھورا نزد اجھے پاں بد نجابت جواب فرستاد کہ اینہا سہمہ سحر است میں
 علاج آک خواہم کرد۔ پیھورا آنکہ فرستاد کہ میرو م شما ہم استعداً
 خود محمود بیا سید چوں پیھورا روانہ شد در اثناء راه ارادہ ہائے
 قاسد نسبت پاں حضرت بخاری آورد در حال نابینا می گشت و
 چوں ازان ارادہ باز می گردید بینا می شد، چنانچہ در راہ ہفت بار
 کو روشن دینی آگشت۔ آخر الامر ارادہ ہائے باطل را از دل بیرون کرد

بخدمت آنحضرت آمد و اجئے پال جوگی نیز یا هفت صد مارکه سحر و افسوس
 مسخر او بودند و یک هزار و پانصد چکر که از ساحری اور در ہوا معلق می آمدند و
 هفت صد شاگرد بخدمت آنحضرت رسید و سحر و جادوئے که می داشت
 بر آنحضرت بکار برده لیکن، یعنی اثر نه کرد و چکرها را که بجانب حضرت
 پیر دستگیر دیاران آنحضرت می فرستاد ہمہ برگشته بر شاگردان اومی رسید و
 سر و دست پاتے آمیزه ارامی برید و مجروح می ساخت و مار ہائے که بزر و
 افسوس با خود آدردہ بود ہمکی نہ سوراخ ہائے در آمدند گویند چکر ہائے
 اجئے پال از اثر سحر او سچنان مسخر شده بودند که اگر با کسی جنگ کردے یا
 شخصی مدد از طلبیدے، چکر ہائے خود را روان می ساخت و تا صد
 کروہ راه رفته سر ہائے دشمنان اور ارامی بریدند. الفقصہ چوں پیغمورا
 و اجئے پال احوال بدیں منوال دیدند و مردم از قشنگی دلیے آبی پہ ملاکت
 رسیدند از راه تصرع و عجزد آمدند، حضرت پیر دستگیر اجئے پال را
 فرمودند که ایں ایمین مرابر داشتہ بیار، اجئے پال چند انکه قوت کرد
 ابریق را نتوانست برداشت - آنحضرت فرمودند که سحر و جادوئے
 تو نیست که باطل گردند ایں ابریق مردانست - پس حضرت پیر دستگیر
 جئے را که مسلمان ساخته شادی نام نہاده بودند، فرمودند ابریق را بیار -
 شادی بوجب فرمان برداشتہ آورد - آنحضرت اند کے ازان آب
 بطریح حوضهای بزر میں رخیتند - بفرمان الہی حوضهای چاه باؤ خشمہ ہائے پر
 آب گردید و نیز دعا کردند شتران پیغمور از جابر ماستہ بچرا مشغول شدند -

از مشاهده ایش خوارق که حضرت پیر دستگیر لپڑ رفت ظاهر نموده بودند و از
 مسلمان شدند جن خود و علام کشتن او کافران جiran مانندند گفتند
 مایاں تمام عمر پرستش ایش جن وندیست آجیه پال کرد کیم و خدا آن صرف
 اینها نمود کیم دریں وقت بسیح لکاره مانیا مدنی پس آجیه پال جو گی یا آخرت
 گفت شما کار خود را بکجا رسانیده اید حضرت پیر دستگیر شر نمودند اول
 تو چیزی که داری بنمای - آجیه پال فی الحال پوست آهیو سه دره هوا
 انداشت و پوست متعلق دره هوا بایستاد بعد ازان خود نمیزد مکثیده و
 جسته بدل پوست نشست و دره هوا بیندی شد و کفار را از مشاهده
 ایش خوشحالی روئی میداد - آنحضرت در مرافقیه بودند سر برداشت
 فرمودند آجیه پال تا کجا رفته گفتند به ببره غیر بظاهره می آید - باز
 آنحضرت پرسیدند عرض کردند الحال از نظر تا پدیدگشت - حضرت
 پیر دستگیر به نعلیین خود اشارت کردند نعلیین در هوا شد و بالا میرفت تایه
 آجیه پال رسید و به سر او نمیزد و آواز ضرب آنرا و ناله و فریاد آجیه پال را
 جمیع حاضران می شنیدند تا آنکه زده زده آجیه پال را از هوا فرود
 آورد و بتهارع وزاری تمام بقدم مبارک افتاده امان خواست حضرت
 پیر دستگیر نعلیین را با شارة منع فرمودند پس آجیه پال گفت حضرت
 تمام چیزی بتمایند - آنحضرت در مرافقیه شدند و در روح مطهر ایشان به عالم
 ملکوت عروج کرد چون آجیه پال نیز ریاضت بسیار کشیده قوت
 استدر راج حاصل نموده مانند هیزم خشک که مجرّد رسیدن به آتش

افروخته گردید، شدہ بود او بھم مراقبہ نبود و روح او استدرانج کرده در
 عقبِ روح پاک آنحضرت می رفت تا به آسمانِ اول رفتند، روح شریعت
 آنحضرت بالائے آسمان عروج کر دو روح اجھے پال درزہ پر آسمان بماند
 راه نیافت۔ با آنحضرت الحاج ذزاری کرد کہ مرا نیز با خود بیمرید۔ آنحضرت
 روح او را با خود بجا لای بودند، تابزی بر عرشِ عظیم رسیده نہ فانہ بکست صحبت
 فیضِ روح مطہر حباب از پیش روح اجھے پال بمناسبت شد و تعظیم
 ادب فرشتگان کے پر روح حضرت پیر و سنتگیری کردند معاشرہ رسید یعنی
 پتوں روح آنحضرت از آنچا مراجعت کرنے پہ آسمانِ اول رسیده
 باز شکو اسدت عروج نماید، روح اجھے پال آنحضرت الحاج کرد کہ مرا در
 اینجا مذکور یہ تا ہمراہ بوده قدرستِ حق جل و علا را مشاهدہ می کرده باشم
 آنحضرت فرمودند تو شائستہ ایں متقامات و شتنے شوی کے بعد میں دل
 بخدا و رسول خدا ایمان آری، اجھے پال قبول کرد کہ مسلمان می شوم آما
 الہ اس داری کہ تاقیامت نہ کرہ ما نہم۔ آل حضرت پدرگاہ سید ای
 عز و جل ممتازات نہ کر فرمان آمد کہ دعائے تو مستحب شد، پس حضرت
 پیر و سنتگرد سست مبارک برسراجھے پال فرمود آوردند فرمودند نہ
 خواری ماند، روح اجھے پال فی الحال ایمان آور دور روح ستریعت
 آنحضرت روح اجھے پال را با خود ہمراہ گرفته باز عروج نموده بعض عظیم
 رسید و عرشِ وکری و بہشت داد دزخ و جمیع عجائب ایمات را دیده باز گشتند و
 از مراقبہ چشم بکشادند، اجھے پال کلمہ طلبیہ کو یاں بپائے مبارک آنحضرت افتخار

درین وقت بجهت مشاهدہ حق و باطل ابتو ہے کہ شیر حاضر شدہ بودند، باز
 اجھے پال سہ مرتبہ کلمہ شہادت بنڈ باں راند و سچو رہ او جمیع کفار این
 مقدمات را دیدہ و شنیدہ شرمذہ ونا امید شدندہ و نجاہنہائے خود باز
 گشتند گوئید اجھے پال تا حال زندہ است و در کوہستان اجمیر بر
 میکنند و ہر روز بیارت رو فہمہ مبتکہ آنحضرت می آید، و اللہ اعلم
 بحقیقتہ الحال و آنحضرت بر سچو را ایمان عرض کر دند لیکن آں ایمان
 نیا ورد و اثر دعائے آنحضرت بدستِ الشکر اسلام گرفتار شدہ
 بخواری تکام بجهنم و اصل شد چنانچہ ذکر این خواہد آمد۔ القصہ اجھے
 پال و شادی جتن بالحاج تمام التماں نمودہ حضرت پیر دستگیر را
 بشہر اجمیر آور دند و آنحضرت مقام شادی را اختیار فرمودہ جماعت
 خانہ و عبادت خانہ و مطبخ ساختند و در جائیکہ ملٹخ بود الحال رو فہمہ
 منورہ آنحضرت است، نقل است از خواجہ قطب الدین بختیار اوشی
 قدس سرہ کہ می فرمودند بیست سال ملازم صحبت ایشان بودم، ہر گز
 ندیدم کہ ایشان کسے را بخود راہ دادہ باشد، وقت کہ در مطبخ چیزے
 نبودے، خادم بیامدے و عرض کر دے آنحضرت مصلائے مبارک را
 برداشتے و فرمودے بردار آنقدر کہ کفایت امر و فرد آکند، خادم
 ہمالقدرب برگفتے سی چینیں سال و ماہ و ظیفہ در و ایشان ازاں حضرت می رسید و
 اگر غریبے و مراضیے بیامدے آنہارا بکم طلب رسائیدندے و ہنکام خصت
 دستِ مبارک زیر مصلائے کر دندے و انجھے سروں آمدے بایشان بدادر کے

وہم از خواجہ منقول است که وقتے مسلمانے از پیش پھورا بخدمت آنحضرت به نیت ارادت بیامد و ایشان او را مرید نکردند آں مرد بازگشت و نزد پھورا رفتہ شکوه از آنحضرت کرد. پھورا شخصه را فرستاده پیغام داد که چرا او را مریدی قبول نکردید. آنحضرت فرمود که بسبب سه چیز که در و مرکب است واز و بطرف نخواهد شد. اول آنکه معاصی بسیار دارد، دویم از هتابعانِ مانیست مکلاه بکسے ند ہیم که پیش غیر سرفروز آرد. سویم آنکه در لوح حفظ نوشته دیدام که او از ییں جہاں بے ایمان رود. چون ایں جواب را به پھورا گفتند و خشم شده گفت شیخ سخنان غیب می گوید. گوئید تا از شهر من بلکه رود، چون ایں مقدمہ لغرض آنحضرت رسید و بسم کرد و فرمودند که یاد گوئید که میان ما و تو سه روز فریبت است یا تو خواهی رفت یا ما ہمدران دو سه روز لشکر سلطان محمد شاه بر سر پھورا یا اجمیع آمد و او را زندہ دستیکر کردن و آن شخص که برائے مرید شدن آمده بود خود را در آب انداخته غرق کر دید و غصب شدن آنحضرت پر پھورا بایں طریق نیز بنتظر درآمده که پھورا مسلمانے را میرجا نپید و آن مسلمان بخدمت حضرت پیر دستیکر شکایت کرد و پناہ آورد، آنحضرت کس فرستاده منع فرمودند آں کافر بدینجت قبول نکرد و گفت ایں مرد اینجا آمده سخنان غیب می گوید، چون گفتار او بعرض حضرت ایشان رسید از روئے غصب فرمودند که پھورا را زندہ گرفتیم و دادیم. ہمدران

ایام شکر سلطان معز الدین سام از غزنه رسید و تھوڑا بالشکر اسلام
مقایلہ نمود و بدست اهل اسلام زندہ اسیر شد و ازان تاریخ دران بیار
اسلام قوی گشت و بیچ لغزوی خلافت مستحاصل کرد یعنی

بعضی از کلمات قرآنی آیات حضرت پیر دشگیر ایں است که فرمودند
○ دل عاشق آتش زده محبت است هر چه درال فرد آیه سبود و
ناچیز کرد دزیر که بیچ آتش بالا راز آتش محبت نیست

○ فرموده اند که از جو یہا و آبها تے روایتی شنید که شورش و آوازه
برگی آید و یمیں که بد ریاضی رسید ساکن می گردد. چمنیں چوں طالب و حمل حق
گردد کم گویند و جوش و خوش دنیوی زامل شود.

○ فرموده اند که پرین می گفت که خدا تے تعالیٰ راد و ستانند کر اگر
زمانے در دنیا از وحی و محظوظ ماند نابود گردد.

○ فرموده اند پرین می گفت در ہر کس ایں سمع خصلت پاشد حق
تعالیٰ او را دوست دارد اول سخاوت چوں سخاوت دریا، دو عم
شفقت چوں شفقت آفتاب سیوم تو اضع چوں تو اضع زمین.

○ فرموده اند که صحبت نیکاں به از کار نیک و صحبت بدال بدر ترانه
کار بد.

○ فرموده اند که مرید در توبہ آں زماں ثابت شوی که فرشته چپ
تابیعت سال بیچ گناہی بروز نمودیشد.

○ فرموده اند پرین می گفت مردستی فقر آنگاہ شود که از و در عالم

فانی همچ باقی نماند.

○ فرموده اند محبت آنست که میطیع باشی و تبرسی که میاداد و سوت براند
○ فرموده اند عارفان را مرتبه است چون باش مرتبه رسند حمبلگی خاطر
اُنچه در عالم است میان دو انگشت خود بینند.

○ فرموده اند عارف آنست که هر چه خواهد بیش او آید و یا هر چه سخن
کند از وجوه اب لشند.

○ فرموده اند رسالهای کار مجاور بودیم عاقبت این میلیست لهم بپذیر
○ فرموده اند گناه شمار اچندان ضرور ندارد که خوارد اشتن برا او مسلمان.

○ فرموده اند بینده وقتی که لبی قتل محبت حق نشگاردن نیارا از آنها پلیته
دل پاک کنند و یا ذکر حق مو انست گیر و قدرستی غیر از هیان بمنزد و آشکار
خدائے تعالیٰ بیگانه شود. اگر چنین نکند حاشا که خدا تو اند رسید.

○ فرموده اند علامت شناخت حق تعالیٰ کریختن است از خانه
خاموش شدن در معرفت.

○ فرموده اند عارف به معرفت رسیده تا از عارف یار نیارد.

○ فرموده اند عارف کسی بود که هر چه ددن او بود از دل برداشد تا
بیگانه گردی چنانکه دوست بیگانه است.

○ فرموده اند اهل محبت طائفه اند که در میان ایشان حق تعالیٰ
همچ حجای نباشد.

○ فرموده اند عارف آنست که خاموش باشد و اند و گهیں بود.

○ فرموده اند هر که نعمت یافت از سخاوت یافت.

○ فرموده اند که چهار چیزگو هر نفس مرد است اول در و بیشتر که تو بخوبی شاید دویم گرسته که سیری شاید سیوم اند و همینکه شادی شاید، چهارم آنکه یادشمن دوستی شاید.

فرموده اند که پیر من خواجہ خواجگان حضرت خواجه عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ می فرمود تر که مومن کسے است که سہ چیز را درست دارد اول درویشی، دویم پیاری سیوم مرگ و ہر کس ایں سه چیز را درست دارد، خدا کے تعالیٰ و فرشتگان اور درست دارند و ممکنات، آس بہشت باشد.

○ فرموده اند درویش آنست که ہر بینده که بر ویجا چت آید محروم بازنہ گردد.

○ فرموده اند عارف در راه محبت کسے است که زل خود را از کوئین بردارد.

○ فرموده اند متول بحقیقت کسے است که رنج و محنت از خلق برگیردنہ از کسے شکایت کند و نہ یا کسے حکایت نہ.

○ فرموده اند که عارف ترین خلق بحق آن بود که مستحیر تر باشد.

○ فرموده اند علامت عارف درست داشتن مرگ است و ترک راحت و انس گرفتن بند کر مولی.

○ فرموده اند که عارف کسے است که چوں یا مداد برخیزد از شب

یادش نیاید۔

○ فرموده اند فاصل ترین اوقات آنسوست که در دوسواس برخاطر بسته باشد ○ فرموده اند علم بحریت محیط و معرفت دریا که ناپیدا کناره ○ فرموده اند عمار فان مانند آفتاب تذکه پرچمگلی می تابند و از نور یا یشان همه عالم روشن است۔

○ فرموده اند مردم بمیزد گاه قرب نزد یک شوندیگر لفیران برداری در نماز زیرا که مضر ارج مومن همیں نماز است و فرموده اند مدد نمای کرد خانم کعبه طواف مبکر داشت چنان که سیدم کعبه گردی هم طوافت می کرد۔

○ فرموده اند چوں آنحضرت آدم علیہ السلام رئیس واقع است همه اشیا برآدم بگردیستند، اگر نزد رسیم حق تعالی یا یشان گفت شما چهرا برآدم نگردیستند؟ گفتند ای ہر کسے که از تو عاصی شود پر ونه گردیم۔ خدا کے تعالی گفت بعترت و جلال خود که قیمت شمارا و ہر چیز از شکایود بر دست فرزنا ان آدم آشکارا کنم و یا یشان را خاذ مان شما گردانم۔

○ فرموده اند در یا هین نوشته دیده ام که وقتی حضرت رسالت پیاوه صلی اللہ علیہ وسلم بر جماعته بلند شدند که آنها ختمه مبکر دن، آن سرور بر یا یشان سلام کردند، همه بر جای خاسته جواب گفتند در وسیع ادب بر زمیں نهادند و حضرت سید لشیر فرمودند اے گروه شما از گوئے گذشتہ ایدی گفتند نه۔ آنحضرت فرمودند پس شمارا چه برسی داشت که می خندیدی؟ بعد از آن آنها را ہمیش کس ہرگز در خندیدند.

- فرموده اند عارف کسے را گویند که اگر بیرون و زندگی هزار آن اسرار تجھی برو
نازد گردشمه ببروں ند ہر دعارت آنست که جمیع علوم بدآنند و صد هزار
معانی بیرون دیدار و یحیه در بکر معاون شناوری کنند تا قدرے از اسرار دانوار
اللهی ببروں آرزو پیش جو بھری محبت عرض کنند تا معلوم شود که دعارت است.
○ فرموده اند که تویه اهل محبت سه نوع است اول ندامت در یکم ترک
محادلت سیوم پاک گشتن از مطالعت.
- فرموده اند که دوست این حق بسیحانه به سه صفت قائم اند اول قوت
قام، دویکم نماز دا کم سوم ذکر قائم.
- فرموده اند عارف در محبت است کسے است که از بیچ چیز شعجب
نیاید که سلیم و دعوی دیگر چاچ جامع نشود.
- فرموده اند که چو اما از پوست بر رو آمد یکم و نکاه کرد یکم عشق و
عاشق و معشوق یکی دیدیم.
- فرموده اند که چو در رویش راجل است طاعت پیدا نشود.
حلادت حجاب او گردید.
- فرموده اند که در رجه عارف آنست که از عجب طاعت و حلادت
آل تویه نماید.
- فرموده اند بعد از محبت بسیار چوی حضرت ولی رسیدم همیچ رجت
بنود، تمام راحتن یا فتم نظر کردم بر اهل دنیا. ایشان را بدنبیا مشغول
دیدم و نظر کردم بر اهل عقیل ایشان را در بند عقیلی یا هم و مجروح په مطلق.

○ فرموده اند صادق در محبت کسے است که چوں یلانه بدر و رسد
لطیع و رغبت قبول کند۔

○ فرموده اند در آثار او لیان نو شسته دیدند ام که وقتی را لیعه بصری
شیخ حسن بصری حمالک دنیا و شیخ شفیقین تلمذی کیمیا نو شسته بودند سخن
در صدق مولی امیر قفت و پرس سخنی می گفت، چوں سخن یه را لیعه رسید
گفت صادق در روستی مولی کسے است که چپل اند ای ای و در دل کے
رسد در مشاهده دوست است آنرا فراموش کند و فرموده اند وقتی بازیز رنگے که همان
حال و مقامات بود در سرے قبرے نو شسته بودم و صاحب پا آن گوره اعداب
میکردند آن بنزگ چوں ایس حالت را مشاهده کنند نظره بند و جیان بدند و
 ساعتی نگذشت که گذاخت و آب گردیدن پایه یار گشت و فرموده اند
اے عزیزان اگر حال خفتگان زیر خاک را که گرفتار یاره میزند و عجبوس
زندان گورند فرده بدانند که بر ایشان چه معامله می ردد از همیشه پنجه
نمک بگدازند - پرسیدند که اتفاقا چیست، فرمودند اتفاقا علیم حق است و پس پرسیدند
چه اتفاقا چیست، فرمودند که اتفاقا علیم حق است و پس پرسیدند
تفصیل است از حضرت خواجہ قطب الدین سخنیار کاکی قدس اللہ سب سترہ که
می گفتند من بیست سال ملازم محبت آن حضرت بودم، هر گزه دیدم که
بر کسے غضب شده باشد نگیر کیم روز در محلی میکونم یک حضرت پیغمبر
دستگیر امرید بے بو و شیخ علی نام شخنه اور اگر فتنه می گفتند زندگے که پیش

تودارم تا ندی ترا خلاص نکننم چوں آنحضرت بسر وقت اور سید نه منع
 کردند، لشیون در غضب شده ردانه که برگرفت مبارک خود را نشاند
 به زمین نزند، فی الحال آن زمین پر از زر و بینار گشت. فرمودند بگیر،
 آنچه حق تو باشد، آشخاص خواست زیاد ترازان بگیرد، و متوجه خشک شد
 عاجزی کرد و فریاد ببرآورد که تو به کردم. آنحضرت دعا کردند، و دش بجایت
 اصلی بازآمد، نقل است که روزی شخشه بظاهر بجهت ارادت بخدرست
 حضرت پیر دستگیر آمد و بباطن قصد ملائکه ایشان نموده کار و دلیل داشت.
 آنحضرت هر مرتبه که بجانب او می دید تسلیم می کردند، بعد از آن فرمودند ای
 در ویش شخشه که نمودند در ویشان می آید از راه صفا است یا از راه خط.
 آمدن شما از چه راه است، یکی را اختیار کنید چوں آنحضرت این سخن بگفتند
 آشخاص برخاست واردۀ فاسد خود را اقرار کرد و کاره را بغل ببرآورد
 بیرون اند انت واردت خالص آورده هر پیش و عاقبت مخدوشة
 چهل و پنج هجگز از این نقل است که وقتی حضرت پیر دستگیر بیا و حضرت
 حق مستقر بودند و عالم علوی بر ایشان مذاکره شد گشته بود، درین اثنا
 هر پیش بیامد و از ولای ملک شکوه کرد و گفت هر آن شهر بدر می کشد.
 آنحضرت پرسیدند و الی کجا سرت، گفت سوارشده بمیدان رفتند
 فرمودند بگو که از اس خط اشده مرده است، آشخاص بیرون امداد شنید که
 ولای ملک در میدان از اسپ بیفتاد و جان پدید، نقل است از حضرت
 خواجه قطب الدین بختیار او شی قرس اللہ سرمه که می گفتند من در مدت

بیست سال در خدمت پیر خود ها هنر پوام ہرگز نشینید که حضرت ایشان صحبت ذات خود خواسته باشدند و اکثر پرسنے بان الہام بیان می راند که الہی ہر جا دردے و محنتے پاشد مبعدهن الدین تاہزادگان ما وہن گستاخی نموده عرض کرد که یا حضرت ایشان چه دعا است که بخود می خواهد فرمودند کہ چون مسلمان نہ را بدرا دو بلائے صعیب و دریباری مبتلا نیگر دانند دلیل صحبت ایمان او است دازگناہاں چنان پاک می گرد که گوئی از مادرزاده است۔

نقل است از حضرت شیخ فردی الدین سعید قدس اللہ سرہ که می گفتند کہ پیرین حضرت خواجه قطب الدین می فرمودند، در چینی مدت که در پھر پیر خود بودم ہمیشہ وقتی نمیدم که ذرۃ از اسرار الہی بحمد بان میار کی ایشان رفتہ باشد یا از انوار کے کہ برآنحضرت نائل می شدہ پیروں داده باشند نقل است از حضرت خواجه قطب الدین بختیار قدس سرہ که می گفتند روزے باشیخ اوحد الدین کرمائی و شیخ شہاب الدین سهروردی لشستہ بوون دریں وقت سلطان شمس الدین تبریزمکانے در دست داشت داز انجامی گز شست نظر میار کی آنحضرت بردا فساد و فرمودند که ایں کو دک بادشاہ دہلی شود و حق تعالیٰ اور از جہاں پر فتا بادشاہ دہلی نہ ساند۔ آخر ہمچنان شد کہ آنحضرت فرموده بودند بادشاہ دہلی گشت۔

نقل است که روزے آنحضرت با جمیع اصحاب خود در جائے لشستہ بودند و تین سلوک در میان بود و ہر بار کہ ابطالی راست خود نگاہ می کردند

بِحُجَّى خاستند و تمامی خلق دیں امر حیران بودند کہ اپستان این بجهت کیست
 چوں از آنجا برگشتهند یکے ان مریدان عرض کر کر که قیام حضرت از بهائیت
 چه داره هر که بود، فرمودند کس آس طرف قبر عثمان ہاروئی پیر مالود، هر هر تیکه که
 نظر آیا طرف می کرد متقی الشیان را مشاهده می کرد مم لے اختیار تو اضع
 می نمودم، نقل است که آنحضرت پرشب از اجmir طیوات خانه کعبه
 می رفتند و خلیفه که بجهت ادائے حج در مکہ معظمہ جمع بودند آنحضرت
 را در طیوات می دیازند و مردم خانه را گماں ایں بود کہ ایشان در عباد
 خانه اند، آخر معلوم شد کہ آنحضرت یکنہ ملکه می روند نماز پیغرا
 آمدہ در جماعت خانه ادای می کنند۔ نقل است که حضرت پیر
 دستگیر پیغتاد سال شب خواب نکرده بودند و پہلوئے مبارک ایشان
 پر زمیں پر سیده بود و وضوی کے آنحضرت جنور قضاۓ حاجت باطل
 نمی شد و یمیشہ حسکم بستہ در مرافقیہ می بودند و هر کاہ پیغمبر مبارک فاطمی کردند و
 نظر فیض اثر خاص آنحضرت پر ہر قاسقے کے می افتاذ نائب می شد و دیگر
 پیر اموں متعصیت نمی کر دید۔

نقل است که حضرت پیر دستگیر می فرمودند کہ ہر کس مرید
 معین الدین، مرید فرزندان معین الدین شود، معین الدین پائے ذریثت
 نہیہ تا آنہارا بہ بہشت نبرد۔ جمیع پرسیده تند کہ سرادا فرزندان کسانند
 فرمودند مراد خلفاً اند کہ تا قیام قیامت شجرہ ارادت ہر کس معین الدین
 رسدا و را امید نجات است۔ حضرت پیر دستگیر فرمودند روزے در

کعبه معظمه شغول بودم، با تف آواز داد که اے معین الدین ما از تو خوشنود شد کیم و ترا آمرزید کیم، از شنبیان ایں بشارت و قسم تخریش شد گفتم الہی بیچارہ معین الدین را اگرچہ آمرزیدی، آماخواسته دارد اگر قبول شود باز ماتف آواز داد اے معین الدین تو درست مانی، بخواه پرچه میخواهی گفتم الہی آناییکه مریدان معین الدین اند و مریدیه مریدان معین الدین شوند لیشان را نیز بیامز، باز از با تف شنیدم که می گویند که هر که مریده مریدان تو باشد آنها را نیز آمرزیدم، نقل است که آنحضرت یحییش صاحب سماع و از عشق الہی مسیت بودند چنانچه هر کس در صحبت فیض سخنیش ایشان بود که اهل سماع گشته - گویند سرو دیندی نیز گاهی می شنیدند اما سماع نمی کردند و درین اختلاف است و الله اعلم -

نقل است که آنحضرت حفظ طلاقم اند محبی داشته باشد و هر که در ختم می کردند در هر چهار تف آواز می داد که حتم ترا قبول کرد کیم -

نقل است که وقتی خواجہ شبان هارمی حضرت پیر دستگیر را بخواسته بود پیشانند بطریق و عنط فرمودند که خرقه در روایشان پو شمیدی، یا یاد کار در روایشان کنی و کار در روایشان فقر و فاقه و محنت کشیدن است و رنج دیدن اند و شادی نزد ایشان بر این است راحتی حرارت پایشان مساوی - درویش محبت با فقیران غریبان کند و یا مسکینان در روایشان نشینند از اهل دنیا محترم بود پس ایں در روایش چنین کرد محبت حضرت ذوالجلال و ذا محبت -

مقرب بر کمال گردید، چوں تسبیحت تمام کردند، دستِ مبارک آنحضرت
 را گرفته گفتند الٰی معین الدین راقیوں کم و مقرب بخویش گردان - با تفه
 آواز داد که نام او را در زمرة محبوبان خود ثبت کرده ایم و اور اسر قوم مشائخ
 گردانیم - کویند هر کس از صدق دل سه روز در صحبت پیر دستگیر
 می ماند ولی اللہ و صاحبِ کشف و کراماتِ حی گردید - نقل است که در
 پندراد هفدهت تن ترسایاں صاحبِ ریاضت بودند و در شش ماه به لفظ
 طعام افطار می کردند و خلق ایسا کے معتقد ایشان بود و از آینده حکایت
 کردند - روزی نزد آنحضرت آمدند بجز در آنکه نظر مبارک آنحضرت
 بر آنها افتاد پیش پیش خورد و در پاسه مبارک حضرت ایشان افتادند -
 حضرت پیر دستگیر فرمودند ای پیغمبرینا خدا یعنی تعالیٰ را می بینید و غیر
 او را که آتش پاش پرستش می کنید - گفتند ما از آتش می ترسیم، چیزی که
 فرد اکارِ ما با آتش خواهد بود، حرمت مانگید اردو ماران سورد، آن حضرت
 فرمودند اگر خدا یعنی تعالیٰ را پرستمید، هم حرمت شمار انگاهد اردو هم از آتش
 دوزخ نجات بخشد - ترسایاں گفتند که شما که خدا ای را می پرستید اگر آتش
 شماران سورد ایمان می آریم - آنحضرت فرمودند آتش کفشِ مران تو اند سوخت
 چیز حددار که مران تو اند سوخت - گفتند اگر مشاهده کنیم، ایمان آریم حضرت
 پیر دستگیر تعالیٰ خود را در آتش اند اخذند و فرمودند ای آتش کفشِ معین
 را نیکو نگاهداری نمایم بجز اند اختن آتش سرد گشت و آواز برا آمد که آتش
 را چیزیار آکه کفش دوست ماران اند سوخت، چوں نرسایاں این معنی را

مشاهده کردند فی الحال ایمان آوردند و میرید آنحضرت گشتند و از جمله او لیا شدند.

نقل است که وقتی حضرت پیر دستگیر مسافر بودند و گفرستانه رسیدند که فار را خبر شد که چندی که از مسلمانان آمدهند جمع تیغه های درست گرفته بقصد آنحضرت دویدند و چون نزد یک سیدند نظر آن کافران بر روی مبارک آنحضرت افتاد، بیکباری فریاد آوردند که ای بنزگ ما خدمت کار شما ایم بر مالطف و شفقت کنید که یه سلمان هی شویم.

حضرت پیر دستگیر کلمه طیبه و شهادت بر ایشان عرض کردند، یعنی کلمه گفت ایمان آوردن و این آن گفرستان ایمین قدم آنحضرت یه سلطان شدند که گویند در عصر آن حضرت جمع کثیر از کفار مسلمان شدند که گویند حضرت پیر دستگیر و قبیلکه متوجه اجیر بودند از لاهمور بهی رسیدند و چند کاه در آنجا اقامت نمودند، چون از وحاص و هجوم خلق بر ایشان بسیار شد، بجانب اجیر متووجه گشتد و در آن مقام جسته فرام آگرچه فی الجمله رونق اسلام بود. اما کفار نجاه غلبہ داشتند بدل طان قطب الدین خدمت دار و غلک آن خطرا به سید حسین که در عرف ایشان را خنگ سوار شنیک گویند فرموده بود. سید زید که عظیمه قدوم سعادت لزوم حضرت پیر دستگیر را در لجه عظیمی دانسته بیشتر در سجن بیضی بخش آن حضرت بیشی برداخته که مقدم شمر لقی آن حضرت بیشتر از کفایتا مدار آن دیوار را به تشریف ایمان و اسلام مشرف گردانید و هر کس ایمان نمی آورد، بجزئی جزئی ندر و نیاز نخورد حضرت

پیر دستیگیر می فرستاد، چنانچه تاین زمان دایی وقت رسم فرستادن نزد روئیاز
 اولاد آنها به روضه متنبکه آنحضرت بحال است و هر سال به زیارت
 روضه منوره آنحضرت می آیند و سر نیاز بر ای آستان قدسی نشان می نهند.
 گویند در عهد سلطان شمس الدین آنمش دوباره دیگر نیز آنحضرت بدملی
 تشریف آورده اند مولانا مسعود از مولانا محمد خادم آنحضرت نقل کرده
 اند که آنحضرت مرتیبه اول که آن جمیربه دملی تشریف آورده و باز به این جمیبر
 آمدند متأهل شدند و ایں مقدمه حنین بود که سید وحییہ الدین محمد مشهدی می
 درخشم اجیبردار و غیر بود، دخترے داشت در نهایت جمال و در عصمت و
 عفت بر کمال نام مبارکش بی بی عصمت بود بحدیل ایوب غ رسیده پدرش
 می خواست که بحیله عقد نبردگزاده در آرد امام پیغمبر را در خور حال و
 کمال ادنی یافت و سید بشه درین فکری بود، شیخ حضرت امام جعفر صادق را
 رضی اللہ عنہ سخاپ دید که می فرمائید فرزندم وحییہ الدین اشارت حضرت
 رسالت پناه صلی اللہ علیہ وسلم بری است که این عاجزه خود را به شیخ
 معین الدین حسن الحسینی بسپاری و بعقد شرعی به اودهی، مسید نام کوره از
 پیوستگان آنحضرت بود، ایں واقعه سخا درست حضرت پیر دستیگیر طاهر
 ساخت، فرمودند که آنچه عمر من با خیر رسیده اما چون اشارت حضرت
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چنین است قبول نمودم و آنحضرت بعد از تاہل
 هفتاد درجیات بودند بعد اینچه ارجمندی رحمت الهی استقال فرمود و عمر مبارک
 حضرت په نو در هفت سال رسیده بود و حلت آنحضرت روز دوشنبه

ششم ماه ربیل مرجب سال ششصد و سی و سه هجری بود، این مقدمه
 کتاب سیر العارفین نوشته شده، و تاریخ ششم ماه ربی در خطه اجمیر
 عرب آنحضرت بسیار خوب و عالی می شود و از اطراف و اکناف ہندوستان
 مردم بسیارے می آیند و کثرت بیمی در روضه منوره حضرت پیر دستگیر فراهم
 می آید و نذر دنیا ز بسیار می بزند و ایں حقیر ترین مریدان نیز پیش ایخ مذکور
 عرب می کند و در رسالت دیگر چنین - یده شد که بعد از تاہل ہندوستان در
 قیدیات بودند و سن مبارک آنحضرت به یک صد و هفت سال رسیده
 بود و در ملفوظات آنحضرت بسطور است که بعد از رحلت در پیشانی
 نورانی حضرت پیر دستگیر نوشته پیدای آمده بود که تحلییت الدین مات
 فی حب اللہ و شیخ عبد الحنفی دہلوی نیز در کتاب اخبار الا خیار نوشته که
 این عبارت در پیشانی مبارک آنحضرت قدس اللہ سرہ طاہر شد بود
 ولقبو لے در ماه ذی الحجه سال مذکور فضییه رحلت آنحضرت روی داده -
 اول صبح است و خطه شریفیه اجمیر در محل اقامت خواشیش مدفن گشته اند
 اول قبر شریف حضرت پیر دستگیر از خشت بود، بعد از آن صندوق قے از
 سنگ بالائے آن ساختند و قبر اول را هم بحال گذاشتند - پایین جهت
 قبر شریف یعنی اول است و اول کسی که در روضه منوره آنحضرت عمارت کرد
 خواجہ من ناگوری بود، بعد از آن در واته خالقاه را بعثت از ملوک
 آندر ساخته اند - نقل است چون حضرت پیر دستگیر از عالم و نانی
 بملک چادرانی رحلت فرمودند، جمعی از اکابر دین حضرت رسالت پناه

راصلی اللہ علیہ وسلم در واقعہ دیدند که میپفرمایند و دوست خدا میعین اور دین
سخنی می آید باستقیاب اد آمدہ ایم گویند بزرگے بعد از رحلت آنحضرت
را نخوا ب دید، پرسید که حال موت و قبر و سوال فرشتگان چگونہ بود؟ فرموند
همه لفظ خداسته رجیم آسان تند اما چوں مران زیر عرش بر دند آواز آمد که
چرا چندیں ترسیدی، گفت ای از قیاره و جیاری تو می ترسیدم فرمان آمد اے
معین الدین کسی کرد در هم ذی الحجه سورۃ البقر خوانده او را باتس چه کار
بروکه ترا آهن زیدم و اند اصلاح خود گردانیدم.

که نبند وجہ تسمیہ اجمیر است که اجسام راجه بود که تاعد و دعزنین
در تهرفناوار است و آجاین بان سیاست ریند و ای آشنا ب رانیز گویند و
میرن بان هندی کوہ رامی گویند و اول دیوار سکه که پرسکو در هند وستان
بنیاد نهاده اند، همیں دیوار ہائے بالائے کوہ اجمیر است و اول حوضه
که در ولاستہ هند وستان کندہ اند لشکر است که از اجمیر چھار کروہ راه
خواهد بود منقول است از رسالہ انیس العارفین که حضرت پریدت گیر
حوالی پیرو مرید شدن خود را الو شتہ اند و در مسجد لبند که مشهود است
بسیار خواجہ چنیار قدس اللہ سرہ دولت پائے بوس حاصل کردہ اند
حضرت پریدست گیر فرمودند که شارخ کیا راضی این کو دند که این در ویش و
یزدین نهاد و بایستاد، پیرین فرمودند در کعبت تمازیگزار، یگزار دم
فرمودند مستقیل قیله بنشیں بنشستم، فرمودند سورۃ البقر خوان خاند
فرمودند شحدت بار کلمہ بسیحان اللہ بخوا کفت، انگاہ خود بایستاد ند

دروے سوئے آسمان کردنار و دست مر آگرفتند و گفتند یا که بخدا نے رسائیں کم
 ہمیں کلمہ کہ فرمودند کلاہ چارتہ کی مبارک بر سر نہادند و گلیم خاص عطا
 کردن، امکاہ فرمودند بنشیں، نشستم، فرمودند، ہزار بیار سورہ اخلاص
 بخواں، خواند م، فرمودند کہ در طبقاً پت مشايخ ما ہمیں یکشا روز
 مجاہدہ است، بروز بزرگ روز و یک شب مجاہدہ کن، بحکم حضرت ایشیاں
 یکشا روز لبطاعت گزرا بند م چوں روز شد، خدمت ایشیاں رفع
 دروے نہاد م، فرمودند بنشیں، نشستم، فرمودند لنظر ببالا کن، چوں
 سوئے آسمان نظر کر دم فرمودند تا کجا می بینی، گفتم تا عرش عظیم، فرمودند
 در زمین، بملک، ہمیں کہ در زمین دیدم فرمودند تا کجا می بینی، گفتم تا تحت
 الشری، باز فرمودند کہ سورہ اخلاص بخواں چول، ہزار بار خواند م فرمودند
 پاڑ سوئے آسمان بیسیں، چوں دیدم فرمودند تا کجا می بینی، گفتم تا جا پ
 عظمت، فرمودند چشم پیش کن، چنیں کر دم فرمودند پاز کن، چوں چشم باز
 کر دم دو انگشت خود بین نمودند و فرمودند کہ چھی بینی، گفتم ہزوہ ہزار
 عالم را تمہاشامی کنم، ہمیں کہ ایں سخن گفتم، فرمودند کار تو تمام شد، بعد ازاں
 خشستہ در پیش بود، فرمودند کہ ایں خشت را بردار، چوں بعد داشتم مُشته
 دنیارا نہ بیرآں بپرول آمد، فرمودند ببر و برد و ایشیاں صدقہ کن، چنان
 کر دم و باز آعدم فرمودند چند روز در صحبت ما خواہی بود گفتم فرمان خواجہ
 راست، آنگاہ حضرت خواجہ عثمان قدس اللہ سرہ، بجانب شق عسافر
 شدند و من در خدمت بودم، لشہرے رسید کیم و حماعیتے را دریا قلبیم

که از خود خبر نداشتند چند روز در آنجا گذرانید کم چنین استعمال افتاد که این
 جماعه بپیشنه در تحریر آنند و هر گز هشیار نمی شوند، از آنجا متوجه زیارت حرمین
 شدند چون بخانه کعبه ممعظمه رسیدند در زیر ناد دال که محل
 اجابت دعا است، دست مرآگرفته در حق من دعا کردند آوازه آمد که
 مامعین الدین محمد سخنی را قبول کردند، چون از مکه ممعظمه بپیشنه مشترقه رسیدند
 در روضه منوره حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وسلم ایں در ولیش رافمود
 سلام کن، سلام کردند از روضه سید عالم علیه الصلوٰۃ والسلام آواز آمد که
 وعلیک السلام یاقطب المشائخ، بر و که بکمال رسیدی داز مدینه منوره
 در خدمت پیر خود بطرف بخار آمدند و با کاکا بر هر جا صحبت میداشتم، الغرض
 مدت ده سال در خدمت پیر خود حضرت خواجہ عثمان ہارولی مسافرت
 کردند و باز حضرت خواجہ عثمان قدس اللہ تعالیٰ معاویت نموده به بغداد
 آمدند و ایشان معتکف است گشتند و بعد از چند کاه باز مسافرشدند و دو سال
 دیگر در سفر بودند و ایں در ولیش جامه خواب وابرق حضرت ایشان را
 بر میداشتم، چون لبست سال تمام شد، حضرت خواجہ به بغداد آمد
 آقامت نمودند و ایں در ولیش رافمودند، دیگر من از اینجا بر و نخواهم آمد
 ترا باید که هر چاچ شکاھ حاضر شدی تا ترا تعلیم فقه و دیگر فوائد تهایم، پسیں ولیش
 بمحنا امیکرده و هر روز بجز مدت ایشان می رفت و انچه از تبیان مبارک
 ایشان می شنید بقلم می در آورد، الفقصه آن حضرت بست و ہشت
 روز در غدر مدت پیر خود حاضر شد و بست و ہشت مجلس را تو شد

رسالہ ساختہ اند و دریں مجلس ہا ہمہ و ععظ و نصیحت است کہ حضرت سات
پناہ صلی اللہ علیہ وسلم چنیں فرمودہ اند و حضرات چہار یار بزرگوار رضی اللہ
عنهم ہر کرام چنیں و چنان فرمودہ اند و در مجلس اول ازان مجالس سخن
از ایمان کردہ و مجلس آخیر در توبہ نصوح فرمودہ اند و بعد ازان حضرت
خواجہ عثمان ہاروئی قریس اللہ روحہ فرمودند، امعین الدین ایں ہمہ سخن
برائے کمال حال بود۔ ہرچہ گفتہم بایک کہ ہمہ را العمل آوری تافردا تے قیامت
شرمندگی حاصل نشود، چون نصلح دمواعظ تمام شد، خرقہ و مصلل او
عملی خود را بحضرت پیر دستیک عزایت کردہ فرمودند کہ یاد کار خواجہ گان
ماست بستان و با خود دار و بعد از خود ہر کراہ دیابی باویدہ۔ گویند حضرت
خواجہ ماقدر اللہ مرہ ازاوتا دبودہ اند و حضرت پیر دستیکیہ اکثر دو گانہ از بھر
یگانہ میگزار دند و اکثر حملوۃ بر سید انام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفسرستا ده اند و
در وقت تناول طعام سبیم اللہ الرحمٰن الرحيم میگفتند ایں
بیت دایں مصراع را بزرگ گھر بار آثر می آور دند۔ بیت
خوب رویاں چھو پر دہ بگیسیر ند
عاشقان پیشِ شان چنان میرند

”صحبت نیکاں یہ از طاعت بود“ بعضے گفتہ اند کہ آنحضرت
در اصل متأهل نشده انہ و بعضے گفتہ اند متأهل نشده اندا ما فر زند نشده
و ایں ہر دو قول ضعیف است، قول صحیح آنست کہ آنحضرت متأهل
نشده اند و فرزندان حاصل گشته اند چنانچہ شیخ عبید الحق دہلوی در کتاب

”اُخبار الالحیا“ خود نوشتہ اندکہ آنحضرت دو کر خدا تے داشتندی کیے بی بی عصمت کے ذکر الیشان سالیق مرقوم گشتہ، دوم آنکہ حضرت پیر دستگیر شیخے در واقعہ دیدند کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فرمائیں دا۔

— اے عین الدین محمد تو معین دین بانی، سُنتے از سنتہا کے ما تک کر دہ اتفاقاً بہاں شبِ حاکم قلعہ بیانی ملک خطاب نام برپرا کافران آنحدو د تاختہ بود و دختر راجہ آں دیار اسیہ او گشتہ دملک خطاب مریدہ حضرت پیر دستگیر بود، آں دختر راجہ آور دہ بود خدمت حضرت حضرت الیشان گزرایند و آنحضرت قبول کردند و نام اور امۃ اللہ نہادند و از هر یکے ازیں دو خاتون او لاد شد، حضرت بی بی حافظہ حمال در ته پا یے پدر بزرگوا خود است و جفت شریعت الیشان شیخ رعنی بودہ اند و قیر شیخ در یکے از قصبات ناگور است، بکتا ر حوضے کے آں رامنڈ لامیگویند و از بی بی دو پسر شدہ بود کہ در حال طقویت ازین علم فانی رحلت کردند بعضی از مردم عوام میگویند کہ بی بی دختر حقيقة حضرت پیر دستگیر بودند و دختر خواندہ آنحضرت اند لیکن سخن عوام را اعتبار سے نہیں چڑکا کہ ایں مقدمات در کتبہ امند رج است و منقول است کہ حضرت پیر دستگیر را سے پسر بودہ است، شیخ ابوسعید و شیخ فخر الدین و شیخ حسام الدین اخیلا است دیں کہ ہر سیہ از بی بی عصمت اند بیا از بی بی امۃ اللہ، سید محمد کلبیو در از کہ مرید حضرت شیخ نصیر الدین قدس اللہ سرہ اند با یک جماعتہ در ویشان بیں اند کہ ہر سیہ از بی بی عصمت شدہ اند و فرزند دیگر از بی بی امۃ اللہ

اند و الله اعلم بالصواب - شیخ فخر الدین قدس السریره بسیار نزد که
 صاحب حال و مقامات عالیه بوده و یک سپاه زراغه است اشتغال باشد و
 موضع ناندن که در حوالی آجیه است احیا ساخته اند و آنچه در ملحوظات
 مشائخ چشتیه مسطور است که فرزندان آنحضرت را در یهی احیا شده
 بودند حاکم مراجمتی رسانیدند و بدین جهت بدین تشریف آوردند که بیش
 شیخ فخر الدین بوده اند و ایشان بعد از پدر بزرگ آنحضرت بسیار سال در قید
 حیات بوده اند و در قنه بمه سردار که از خاطره اجمیع شاهزاده کرده است برگشت
 حق بیوسته اند و مادرش تشریف ایشان نزدیک سرپوش تقدیمه مکرر است
 شیخ حسام الدین بسیار خود حضرت پیر و شیخ بزرگ نزدیکی که بیند ایشان غای
 شده - لطفاً محدث - (الله بیوسته اند در انتها ای احیا شیخ عباد الحق دلموی)
 نوشتند که ادلا و حفای آنحضرت مذکور است و آنچه بعده هر دو هم عنوان
 گویند که حضرت خواجه بندرگوار تهموئی بوده اند و فرزندان نداشتهند غایط
 فاحش است - ذکر اولاد آنحضرت در ملحوظات مشائخ پیشست اقع
 است - شیخ فردیز بهره شیخ محمد الدین ناگوری از پیر خود نقل کرده که پیر
 حضرت خواجه مارافرزندان حاصل شده بدان من پیر بیرون نه که محمد بیرون است
 پیش ازین که قوی و جوان بود بکم مهرچه از درگاه حضرت غریب ای طلب بید کم
 زد می یاقوتیم - آنکه که پیر و فرعیه است شد بکم حاجت بدعا ای شود و کاره
 در نگه دی کشد - پنده عرض کرد که حضرت را وشن است که پول حضرت
 مرکم را علیه السلام حضرت علیه السلام و السلام حاصل نشد بود

میورہ نستان بہ تابستان میر سید و بے منت در محراب حاضری یافت، چوں
عیسیے علیہ السلام متولد شدند حضرت مریم منتظر شدند که رزق ہمچنان خواہم
یافت فرمان آمد کہ برو شاخہاے درخت خرماء السوئے خود بسجنبیاں تا بر تو
خراست تازہ بینزد، درالحال و دریں حال ایں قدر تفاوت است حضرت
خواجہ را ایں جواب از بندہ قبول اُفتاد و یہ پسندید نام شیخ غزالیں لد
آل حضرت را پسراے بود شیخ حسام الدین سوخته، بسیار بزرگ بود
اندہ با حضرت شیخ نظام الدین یدواری قدس سرہ صحبت داشته بودند
پر شیخ حسام الدین سوخته در قصبه نما بھر طرف مغرب بسر راه خطہ
اجمیر واقع است۔

خواجہ معین الدین خورد، پسربزرگ شیخ حسام الدین سوخته انداز
ایشان را خود و نسبت بحضرت خواجہ بزرگ می گویند و ہمیں منقبت و
افخار بایشان بس است، خواجہ خورد در ویشه کامل بوڑه انداز پیش از
آنکہ مردی شوند مکبسبی ریاضت و مجاہدت کار بحالت رسانیده بودند
کہ بے واسطہ از حضرت پیر دستگیر خواجہ بزرگ استفاضہ می کردند و آخر
بکمہ آنحضرت مرید حضرت شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ سرہ شدند
خرقه خلافت ایشان پوشیدند و یکی از بنایہ حضرت پیر دستگیر خواجہ
بزرگ شیخ بایزید بودند و قتنے کے سلطان محمود خلیجی بادشاہ ماند و بود،
شیخ بایزید بعد از عمر بیان سفر باز آمدند و ادعائے تسبیت فرزندی
آنحضرت کردند و سلطان محمود خلیجی ایشان را بتریس خطہ اجمیر نصب کرد و

ایشان عالم کامل بودند شیخ احمد مجرد گفته اخلاف مردم که در فرزندان
 حضرت خواجه بزرگ قدس الله روحه ممشیور است در همیں شیخ یا یزید
 است که بعد از مدتی از آقامت نمودن با جمیع جماعت انکار فرزندی ایشان
 کردند بیار شاه وقت رساییدند پادشاه از علماء و مشائخ آن زمان
 استفسار کرد شیخ حسین ناگوری و مولانا استحیم اجمیری که از علماء تبعصر و قدران
 اجمیر بودند با غلماهه دریج گواهی دادند که شیخ از فرزندان شیخ فیض الدین
 بن شیخ حسام الدین بن شیخ فخر الدین بن حضرت خواجه معین الحق والملائمه
 والدین اند قدس الله اراده اهمیت و شیخ حسین یفرزندان شیخ یا یزید را سبب
 خویشی کرده اند و دختر داده اند، از این ظاہرا سنت که نسبت فرزندی
 ایشان بر شیخ حسین متحقق شده، معلوم بگذشت که پیر وستگیر خواجه معین الحق
 والدین محمد قدس الله تعالیٰ سره از سادات حسینی بوده اند و بالاشبه اولاد
 امداد حضرت سید المرسلین اند صلی الله علیه وسلم درین سختی نیست چون
 پادشاه عصر حضرت خلافت پناه صاحب قران ثالث شاهجهان پادشاه
 خلد اشر مملکه که والدین ضعیفه اند، بر حقیقت سیادت حضرت پیر وستگیر
 اطلاع نداشته باشد در تحقیق این امر بودند وابی فقیره مکر را گفت
 که ایشان سید بودند یا ورنی کردند تا آنکه روزی اکبر نامه ملطاعه می کوشند
 شیخ ابوالفضل حقیقت سیادت حضرت پیر وستگیر و شنبه از احوال ساعت
 اشتمال آن حضرت را در اکبر نامه ذکر کرده، بنظر مبارک ایشان در آمد،
 ازال روزای همینی که روشن تراز آشتاب بودیم پادشاه ظلیل الله ظاہر شد.

وبد انکه حضرت پیر دستگیر را چشی ازین چیز گویند که حبیت نام قصته
از ولایت خراسان پیوں او بیارالله مشتل حضرت خواجہ ابواحمد ابدال حشی
خواجہ ابو محمد حشی و حضرت خواجہ محمود حشی و حضرت خواجہ یوسف حشی
قدس اللہ اسرارہم انما قصیہ بودند بنا بر اس ایں سلسلہ را چشتبه گویند
هر کس انہریدان ایشان است اور را چشتبه می نامند و حضرت پیر دستگیر
حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجی دریج العصر وحده در بیان سلسلہ حشی
مرید شده اند و نسبت ارادت ایشان به پائزه و اسطه بحضرت پیر دستگیر
صلی اللہ علیہ وسلم بپرسد و هرید خاص و خلیفه پزدگی حضرت پیر دستگیر
حضرت خواجہ قطب الدین احمد بن ختیار اشی کا کی اند و هرید خلیفه خاص
ایشان حضرت شیخ فرید الدین مسعود راجو و حنفی و هرید خلیفه خاص
ایشان حضرت شیخ نظام الدین محمد بیداری و هرید خلیفه خاص ایشان
حضرت شیخ نصیر الدین محمود آوردنی قدس اللہ اسرارہم -

صحابی سیر العارفین، می نویسید که حضرت شیخ نصیر الدین محمود
خرقه خلافت بیان کیس تداده اند و در وقتی اذن بموجب وصیت
ایشان خرقه و عصیا و تسلیع و کاسه چوبی و تعلیم را با ایشان در قبر
گذاشتند - پاشاهم رسید شمہ اذ ذکر حضرت پیر دستگیر
قدس اللہ اسرارہم لیس لازم داشت که پاره از احوال خلفائے کباراً خضر
را که اسامی ایشان، یا لاند کو شدید دریگی رسالت مقد درج سیاره
و ادله الموقت یا الاتمام

ذکر حضرت قطب مسائیح کیمار و قدر و آن کا برعالیٰ منقار
 عارفِ معارفِ بیان، سالکِ مساکن کی حقیقتی و خداوندی
 خواجه قطب الدین شجاعی ارشاد کی کانی قدسی اللہ عزیز ترہ۔
 یا ممثلاً شریعت ایشان سجده ایسا راستہ فتنہ قطب الدین ایشان
 مرید و خلیفہ حضرت پیر دستگیر خواجه بیین الملک و الحسن والدین رحمة اللہ عزیز
 قدسی اللہ عزیز اصل ایشان ازاوش است و آن تصویر ایشان ایشان
 ولایت ماوراء النهر، بسیارہ بزرگ و صاحب کرامات و منفایات عالیہ
 بود و اندہ پاک بزرگ کو ایشان کمال الدین احمد موسیٰ حضرت خواجه
 راطفل گذاشته از دینار حملت نموده اند و والدہ ماحمدہ ایشان کی بسیار
 عفیفہ، هماحلہ، عابد بودند تھے بست می کرد تھے چوں بہ پنج سالگی رسیدند
 با مرد صاحب کہ سمجھا تھا ایشان می بود ہمراہ ساختہ، سجھتہ تعلیم قرآن مجید
 نزد معلمہ فرستاد نامہ در راه حضرت خفیض علیہ السلام یاں مرد طیار
 ملاقات نمودہ گفتند ایں طفل را بین ہمراہ کن کہ معلمی صاحب بسیارہ
 ایشانہ با خود ہمراہ گرفتہ نزد حضرت شیخ ابوحنفی پرده گفتند کہ ایں
 طفل از خاندان بزرگ است و بزرگ خواہ شد، شیخ ابوحنفی پا ایشان گفتند

ایں شخصے کے ترا آوردہ بود، خضرابود، علیہ السلام و از برکتِ صحبتِ شیخ ابو حفص
 ایشان رافت و حاتِ غلبی و فیوضاتِ لاربی روئے نمود و علوم ظاہری و
 باطنی حاصل آمد و بمعاملاتِ دینی و حالاتِ یقینی رسیدند و ریاضت و
 مجاہدات بسیار کشیدہ و کامل و مکمل کشتنا۔ ہمدرد ایام حضرت قطب
 الادبیا پیر دستگیر خواجہ بندرگ قدس اللہ سرہ با نجاح رسیدند والیشان
 حلقة ارادت آنحضرت درگوش و دست بیعت دادند و لبشرفت
 خلافت مشرف شدند و از آتش بجانب بغداد غز کیت نمودند و
 شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی و شیخ اوحد الدین کرمائی و دیگر
 مشائخ آن دیار راجحہم اللہ تعالیٰ دریافتہ اند، چوں شنیدند کہ حضرت
 پیر دستگیر متوجه ہند و سستان گشته اند، ایشان نیز با تفاق شیخ جلال الدین
 تبرنیسی قدس اللہ سرہ روانہ ہند و سستان شدند و در ملتان پا حضرت
 قدوة ابو اصیلین والعارفین شیخ بہار الدین ذکر یار و روح اللہ وحہ
 ملاقات نمودند و در صحبتِ ایشان می بودند، ہمدرد ایام لشکرے
 اند دشمناں آمدہ قلعہ ملتان را محاصرہ نمود و کاربراہل شہر و قلعہ بیار
 تناک شد، حاکم شہر لتھا۔ بخدمتِ حضرت خواجہ قطب الملۃ والدین
 آورد و ایشان دعائے خواندہ بر تیرے دمید و فرمودند کہ اس تیر را
 وقت شام بجانب لشکر دمن بیندازید۔ حاکم چنیس کرد۔ ہمارا شب
 دیشته بردشمناں افتاد و خود بخود بکری بختند و خلق خدا ازه شر ایشان

دا، آنہا

نجات یافتند.

گویند حضرت سلطان العارفین شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر قدس الله
سره نیز در میان بشرت ارادت حضرت قطب الاولیاء مشرف شدند و حضرت
خواجہ از ملیان متوجه دری گشت و سلطان شمس الدین پادشاه دری قد و هم
سعادت لزوم حضرت ایشان را عطیه از عطا یایتے الہی دانسته استقبال
نموده با غزال تمام شده آورده و حضرت ایشان در موضع کیملو کھری نزول
فرمودند و حضرت شیخ محمد عطا کره به حمید الدین ناگوری مشهور آندر دیگر
مشائخ در خدمت و صحبت حضرت خواجہ قطب الاولیاء حاضری بو و تدری
سلطان شمس الدین در هفته دو هفت بسباب از دست ایشان میرفت آخوند
بالحاج تمام التامس کرد که حضرت والاکرم نموده در شهر اقامست فرمایند التمام
سلطان را قبول فرموده بشهر نزدیک آمد و در مسجد علی خواجہ الدین فرمود
آمدند و عرضیه باشندیاق تمام بخشیده است حضرت پیر دستگیر قطب الاله فاق
خواجہ بزرگ قدس الله سره نوشند و التامس کردند که اگر اشارت مشود
بسعادت ملازمت بر سد آنحضرت در جهاب نوشند که قرب جان زد
بعد مکانی مانع نیست - همانجا مشغول پاشید که تبع فیق سیحانی ما با آن طرز
متوجه خواهیم شد و حضرت پیر دستگیر از خطه دلپذیر اجمیع عارفین رشته
به دری رسیدند و در منزل حضرت خواجہ قطب الملة نزول فرمودند و لذت
خطیم با ایشان روئے نمود و تمامی اکایه و ایال آشیانه بسعادت ملازمت
ایشان مستعد گردیدند و حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر نیز در ایشان

آیام در خدمت پیر خود حضرت خواجہ قطب الدین بودند و سعادت
 دست بوس آں آں حضرت رادر یافتند و حضرت پیر دستگیر بارہ فرموده
 اند که بایا بختیار شاہیا ز عظیم در راه آورده که جنہ سدرۃ المحتشمی
 آسپانہ تکید و بعد از حیدر و ز حضرت پیر دستگیر عازم اجمیکشتن و حضرت
 خواجہ هم در ملائمه شد روانہ شدند اذین معنی اہل شهر راحمالے ساخت
 روئے بخود و تابعه بمان وجدانی از خامیت ایشان نداشتند که بی زاری
 بسیار می تجوید تر ملکان شس الدین تیز خود را باضطراب تمام بخورد
 آں حضرت رسانید و اخارج و تضرع مالاکلیم در بودن حضرت خواجہ
 کرد. حضرت پیر دستگیر ایشان را خضرت مراجعت فرمودند.
 حسب الامر حضرت پیر خود بگشته در بیان مانندند و بار شاد طایا
 مشغول گشتنده هر گز از کسے فتوح قبول نمی کردند و اکثر با خضر علیہ السلام
 صحبت می داشتند و در اوآخر حال متأهل شدند و اللہ تعالیٰ در پیر
 تو اماں عطا فرمود و در رسالہ دیکھ نوشتہ دریا شد که حضرت خواجہ
 قطب الدین در خدمت حضرت پیر دستگیر خواجہ بزرگ ساقدس اللہ عزیز
 بودند چون پیل روز بحدست آں حضرت مانند خرقہ خلافت پھسلی و
 عصا و نعلیں با ایشان عبایت نموده، رخضیت در بیان فرمودند آیندہ
 خبر آورد که بعد از روانہ شدند سه آں حضرت بلیست روز در حیات
 بودند ————— حضرت خواجہ قطب الملة را کمی ازان
 گویند که فقر بر ایشان غالب بود حرم محترم حضرت ایشان بعد از یک

فاقه در دو فاقه از زدن بقایے آنقدر که کفاوت شود قرض ممکن نداشت. روزه
زنندگی حروف ناملا کم گفت، حرم ایشان بعرض رسایند که او چنین
گفته، فرمودند بعد از این اذو قرض تکنید و طاقت که در حجره ماست
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ گفته و دست در آن طاق کرده
بنقدیم احتیاج کاک ازا آن خاکه دارید و قوت خود رو دیگر و البستگان ساز می
چنین می کردند و کاک ہائے کرم اذ قدرست الہی بسروی می آمد و قوت
عیال و فقر ای شد و الحال نیز مجاور آن راه همه معموره ایشان کاک
می پزند و بر زانه ایشان دست و ایشان قسمت می نمایند. و جمیع تسمیه کاک طور رنگی
نیز گفته شده، اما آنچه معتبر است در کتابهای نوشته اندلائی است که
قالمی گردید — نقل است که لون قوالان ای بیت را که سه
کشتگان خنجری میشم را !

هر زمان از عجیب چیز نمیتواند و نیز است
پنج اندر و خضرت خواجه را وجد سے عظیم در گرفت و تاسده و قوالان
همیں بیت را تکرار می کردند و ایشان بیوش بودند در وقت نماز
بهوش می آمدند و باز همیں بیت را بقولان فرموده بیوش می شد تا
پهار روزایی حالت بود، شب چهارم حال دیگر گرسنگ شد و
سرمبار بک ایشان در لغیل قاضی حمید الدین ناگوری شیخ
در کتاب شیخ بدالدین غزنوی بود، قاضی حمید الدین چهل حال بی

(۱) حال -

متوال دیداز حضرت ایشان پرسیدند که از خلفا کدام بر بیاده حضرت نشینید،
 فرمودند تخرقه و عصما و مصلاؤ نعلین حضرت پیر شکلر که بین رسید، شیخ
 فرید الدین سعواد اجود هنی بر ساینده و طائر روح حضرت ایشان بخلاف اعلیٰ
 پرداز نکود حضرت شیخ فرید الدین در قصیمه هاسی بودند و ایں قضیه را در
 واقعه دیده متوجه گشته روز سی و سوم از محلت حضرت خواجه بدینی رسیدند
 و سه خود را امیر قدیمنور سپرخود سودند و همان روزه بیو جب وصیت ایشان
 تخرقه خلافت پوشیده بران مصلی نماز ادا کردند و در حیات همیارک پیر
 خود نشستند. وفات حضرت ایشان روز دو شنبه چهاردهم ماه
 ربیع الاول سال ششصد و سی و سه هجری بوده و عمر قد در دهی کهنه است.

ذکر مسالکِ مسالکِ ترک و تجربہ عارفِ معارفِ
 توکل و تفریہ امیرِ محلکِ حقیقت پیر طالبانِ ظریحت
 پیشوائے عارفانِ کاملِ مقتولَتے سالکانِ واصلِ راہبر
 طریقِ پہنچی صاحبِ نہادہ و درج و تقویٰ سلطان
 التارکین شیخ حمید الدین ناگوری قدس اللہ تعالیٰ سرہ

لقب ایشان سلطان التارکین است از خلفاء بزرگ
 حضرت پیر دستیگیر اند صاحب کشف و کرامات و حال و مقامات
 عالیہ بوده اند تجربہ و تفریہ و توکل ایشان برکمال بوده و در ریاست و
 مجاہدت قدر می راسخ داشته اند ازاولاد سعید بن زید اند رضی اللہ عنہ که از عشرہ میشرہ بوده اند حضرت شیخ عمر در راه یافته اند حبنا نجف
 تا اوائل آیام حضرت سلطان الاولیاء شیخ نظام الدین قدس اللہ تعالیٰ سرہ
 در قیدِ حیات بوده اند نقل است که روزِ رحیمه حضرت پیر دستیگیر ا
 قدس اللہ تعالیٰ سرہ وقت خوش بود فرمودند بہر کس ہر جیسے میخواہد طلبید که
 ابوابِ اجابت مفتوح است شخصی دین خواست دیگرے خواہش

دنیا نمود، شیخ حمید الدین فرمودند سخواهی که در دیں و دنیا معزز و مکرم باشی ایشان عرض کردند، پسند را خواشی نمی باشد خواست خواست خداوند تعالی است، بعده روئی مبارک بیان پیغمبر حضرت خواجه
قطعی الدین کردند همیں سخن فرمودند ایشان نیز تکمیل جواب دادند که
پسند را اختیار نیست، حضرت پیر دشتگیر فرمودند التارک الدنیا و
الفارغ عن العقبی سلطان التارکین ملقب شدند، گویند حضرت
ایشان را در موضع سوالی که از مضافات ناگوار است پیدا و طناب زمین
اجیا نمود که پرسخت خود کیشت و مکار نموده محصول آنرا قوت خود و
عیال میکردند.

گویند حضرت پیر دشتگیری فرمودند که او از عین الدین و حمید الدین
بیکیست آخراً امر را چنان پسند که آن حضرت فرموده بودند در میان اولاد
امجاد حضرت پیر دشتگیر و شیخ حمید الدین سلیمانی خود پیشیها واقع شد.
ایشان را صنیفات بسیار است و سخنان بسیار عالی است، از احتمله
ای است که گفته اند حق تعالی را بجهول مشبهای طلب نه کنی و ترک
طلب چوں معطلان بیکری یعنی طلب نه کنی و طلب فروندگاری
الله تبارک و تعالی در جهت نیست تا آن طرف حرکت کنی و در مرکز
نیست تا آن مکان را لانم کیری - آبتد نیست تا بدعا وزاری
خواهی - در نیست تا به نزدیک او شوی، گم شده نیست تا بجوبی - زمانی
نیست تا منتظر ما باشی، ایں همه نفعی طلب است پس اثبات کلام

است آنکه نفی خود و نفی اوصافِ خود کنی تا از صفاتِ پیشمریت مگذری و از جمله صفاتِ ملکیت کناره گیری و از جمله اشیاء مجرد و منفرد آنی طلب آن نیست که اثبات او کنی، طلب آنست که خود را محسانی طلب آن نیست که بدرو تازی، طلب آنست که خود را در و بانی، طلب آن نیست که اورا بجوانی طلب آنست که ترک خود را بگوئی تو آینه صاف کن چون صفات شده عکس ضروری الوجود است، والیشاں فرموده اند اول طریقہ سلوک چیست، آنکه از کوئین برآئی امتحن و عیشیست، آنکه تو نهایی را هی در پیش نهاده اند هم باز یک و هم دراز و ترا عمرے داده اند هم تاریک و هم کوتاه و درین تاریکی برآسته تو ما هم تابع از مطلع عنایت طارع کرده اند، بر تحریز و لشایب و ایس ما هم تابع را اینهیست دارد این عمر کوتاه را گذره شسته از گار، و خود را از مردگان لشما و اگر مردگه، مردنی همیدان -

جانیست هر آینه بخواهد رفتون

اندر غم عشق اور رو داد لی نز

اما خواهد بسته غفلت خوش خفتة است و نی داند که دعوی مجت کرده است و به کس دعوی مجت کند، چون شب در آیا و با محظوظ شخص نام اور ذهن کند ایا زنند، از ایشان پرسیدند شرعیت و طریقت را چنان یکه دانیم، فرمودند چه تو جان و تن خود را بکه همیدانی، طریقت جان شرعیت است،

پرسیدند که راه منزل ارباب شرعیت و اصحاب طریقت کدام

است، فرمودند راه منزل از باب شرعیت از نفس و مال برآمدن است و پیغمبر مسیح در آمدن و راه منزل اصحاب طریقت از جان و دل برآمدن است و بزرگ وحدت در آمدن - پیر سید ند که مالک الملک کنیت تابه او را آرایم، فرمودند کجا است که نیست آینه‌ات تو افشه و مجد الله - پیر سید ند کسے او را دیده است که بینا پیدا فرمودند... که دیده آنکه بادیده است، نه آنکه بیهوده است -

پیر سید ند آتش دوزخ بادر و لیشان چه کاردارد، فرمودند که آتش دوزخ بادر و لیشان همچ آمیزش و آویزش ندارد، آما فقر کو، و فقیر کجا، فقر سیاہی است که الفقر سواد الوجه فی الدارین سیاه روئی باید فقر در سراته سیده او فرد آید - پیر سید ند فقر بہر حال مذموم است - فرمودند فقر امر عدی است، بعدم خزر کردن مذموم است و بوجود آن خزر کردن مجهود اذین است که حضرت خواجه عالم و خزر بنی آدم محمد رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه وسلم بوجود دنیا و آخرت خزنه که دند کچوں کار لبقر سید فرمود الفقر خزی -

وفات حضرت سلطان التارکین در بیست و نهم ماه ربیع الآخر سال ششصد و هفتاد و سه هجری بوده، مرقده ایشان در ناگور است -

(۱) اینکه مشهور عوام است که مرقد شیخ حمید الدین ناگوری در هنلی بجوار مزارِ فاتح الازار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی است پیاری تحقیق و تصریح نرسیده -

ذکر حضرت قدرۃ الاولیاء کیا عہدہ مشائخ عالیٰ مقدار
 پسلاک عارفان کامل، سفر حلقة و اصلاح اجل، زبدال کاملین
 شیخ فرید الہ بن مسعود احمد بن معروف بشکر گنج قدس سرہ.

از کبار اولیائے دہرو بزرگان مشائخ عصر خود بوده مرید و خلیفہ حضرت
 خواجہ قطب الدین بختیار ارادتی اند، قدس اللہ روحہ۔ پدر ایشان خواہزادہ
 سلطان محمود غزنوی والدہ ایشان دختر مولانا جوہیہ الدین خجندی است
 منقول است از حضرت سلطان الاولیاء شیخ نظام براوی قدم قدس اللہ
 سرہ که شے نزدے بخانہ والدہ ایشان در آمدنا بینا گشت، داشت که
 خانہ بزرگیست، با خدا عہد کرد که اگر بینا گردد، دیکھ و زدنی نکنم و مسلمان شوم،
 چون آن عفیفہ صالحہ برادرادہ وزیر مطلع گشت دعا کرد، دزد بینا شد و
 بیرون رفت. روز دیگر بازن فرزندان خود آمده مسلمان شد و نام او عبد اللہ
 نہادند و یکے آن و اصلاح گردید. دیگر در میلان در مسجد مولانا مسماج
 الدین ترمذی کیس شریف ایشان بہڑہ سالگی رسیده بود ب تحصیل علوم
 دینی مشغول بودند، ہمدرد ایام حضرت خواجہ قطب الملة والدین اوشی
 در مسجد تشریف آور دند و حضرت شیخ فرید الدین راصلاح و تقویٰ

برکمال بود اند روئے نهایت اخلاص بخوبیت حضرت خواجہ آمدند، ایشان
 پرسیدند در دست شما چه کتاب است، گفتند "ناتع" است در علم فقه محضرت
 خواجہ فرمودند اشار اللہ تعالیٰ شمارانافع خواهد بود، گفتند هر اخذ است حضرت
 نافع است و هم در آن مجلس مرید شدند، چون حضرت خواجہ از ملتان
 متوجه دری شدند ایشان سه منزل بهراه پیر خود آمدند، آخر بشاره
 پیر هر اجتنب نموده بچشمیل علوم ظاہری مستغول گشتند و شغل یاطینی نیز
 داشتند، چون علوم ظاہر و یاطین حاصل آمد عازم دری کی کشته بخوبیت پیر
 خود رسیدند و حضرت خواجہ از رسیدن ایشان بسیار مسرور و خوش قیمت
 شدند و شیرت ایشان در دری بسیار شد، از خدمت پیر خود رخاست گرفته
 بقصبه هالسی رفتند، بعد از رحلت حضرت خواجہ بدربلی آمدند و خرقه
 خلافت را پوشاکند و یک هفته در دری مانده بسیب، بحوم خلائق باز
 بطرف هالسی عازم گردیدند و چندگاه در آنجا بوده باز بجهة از دعایم
 مردم مسافرشدند و گذران ایشان بمحض اجودهن که نزد یکی بیالپو
 است افتاد، چون اکثر مردم از آنجا است اعتقد ایشان بودند.
 متوجه و مشغول حال ایشان تکمی شدند در آنجا اقامت نموده بخاطر جمع
 مشغول گشتند و هم در آنجا حضرت ایشان را تا هیل واقع شد و فرزندان
 حاصل آمدند و آوازه مجاهدت و ریاضت و کرامت ایشان در اطراف
 و آثار مشهور شد و طالیان را هن روئے ارادت باستانه ایشان

(۱) فرموده -

نہادند ولیشافت دستبوس و بعیدت مشرفت شدہ بمرادمی رسیدند خوارق
 کرامات ایشاں زیادہ از انس است که الہ کے دریں رسالہ کنجائی داشتہ شدہ
 حضرت ایشاں را گنج شکر ازاں گویند کہ وقتے در دلی ہفت وز
 از جنس طعام چیز نے رسیدہ و افطار نہ کرد بودندہ بحمد مدت پیر خود حضرت
 قطب لاولیار می رفتہ از غایت صعافت پائے مبارک ایشاں بلغ زیادہ
 بیفتادند و انک گلے بدہان ایشاں درآمد و بقدر است الہی شکر گشت
 چوں بحمد مدت پیر خود رسیدہ و حضرت خواجہ فرمودندہ فرید الدین گلے کہ
 بدہان تورفت و شکر گشت چه عجب است حق تعالیٰ وجود تیرا گنج شکر
 گردانیدہ و سپوارہ شیر خواہی بود ایشاں تشریف نہ بخوبی تھا اذ نہ
 چوں از آنچہ بازگشتندہ کرس کہ ایشاں رامی دیدھی تھفت فرید الدین
 مسعود گنج شکر می آید و جہ سہمیہ گنج شکر بچیند روشن دیگر، تم مسروع شدہ
 اما آنچہ در کتابہ امر قوم است این است کہ مسطور شدہ و حضرت
 ایشاں صاحم الدہر بودندہ در حال بیماری نیز افطار نہی کردند و خورا
 ایشاں اکثر میوہ ہائے جنگلی و گیا ہائے صحرائی بود واکثر بزمہ کان ایں سالمہ
 علیہ صاحم الدہر و قائم اللیل بودہ اند تقل است از حضرت سلطان
 الاولیار کہ فرمودندہ ورنے کے حضرت گنج شکر دست بر محاجا سن کشیدند
 و میوے چند اشتبہ التماں نمودہ آں موتے را الکر فتحم و تعوینیہ کے ساختہ
 ہمیشہ باخود داشتم، چوں بدہی رسیدم ہرگاہ مرا یاد دیگرے را بیماری کرے
 میدار آں تعوینیہ کا شستہ میجنہ دیکم واللہ تعالیٰ شفافی بخشید و

در شهر دهلي شهرت داشت و بيماران از من مي يرددند و صحت مي یافتند و باز
مي آورند و آنرا در طaque معين نگاه مي داشتم. روز يك يك از دوستان
بر من آمد و بجهت بيماري پسر خود آش تعيين ياره از من خواست، هر حيند
در آش طاق و ده يك يك جاها تفحص کردم نيا فتحم. آش شخص نا اميد بيرگشت و
پسرش همدران بيماري فوت شد، بعد ازان آش تعيين ياره رادر هما طاق
يا فتحم. و هم از حضرت ايشان منقول است که مي گفتند چوں حضرت
پير مرا بيماري روئے نمود، هر اعنييات خاصه تو اخته بجانب یهلي رخصت
فرمودند و آب در سپم مبارک ايشان گردید، من نيز وقت دادع پيشتر از
هر مرتبه که از خدمت ايشان جيدامي شدم اند و گهين و غمناک شدم و هم
يدان حال یده یهلي رسيدم ناگاه خبر رسالت آنحضرت رسيد که شبے بعد ازان
اد آئے تماز عشار یهلوش گشتند، بعد ازان هشياري از مولانا بدرا الدين
آخون پرسيدند که من تماز عشار گزارده ام، گفت بلے، بجهت اعتياد
با ز تماز عشار گزارده دند باز یهلوش شدند، چوں بخود آمازند پرسيدند
تماز عشار گزارده ام، گفت بلے، باز مرتبه سیوم تماز عشار گردند، بعد ازان
فرمودند نظام الدین در دهلي است، من نيز وقت رحلت پير خود در
يانسي بودم و بمولانا بدرا الدين آهسته فرمودند خد قه که از حضرت خواجه
قطب الدین سبن رسیده بدر پيش نظام الدین سالمي و وضو ساخته دوگانه ادا کردند
در پيغمبر حضرت یزدي پيوستند وفات حضرت ايشان پنجم ماه محرم ۶۴۷ھ روئي
واده و مرق شرابي رقصيه پين است که تردد يكلا هور است.

ذکر حضرت سلطان الاولیاء ملک الاتقیا صدر آراء
 مسند عرفان مسند نشینیوں ایوان ایقان سلالہ اولیائے
 نقاوۃ مشائخ عظام عارف معارف ربائی سالک مشائخ
 خدادائی شیخ نظام الدین محمد بدروی قدس اللہ تعالیٰ سرہ
 نام پدر بزرگوار ایشاں شیخ احمد ابن دانیال است از غزنیین پ
 ہندوستان آمده بودند و در قصیہ بداؤں اقامست داشتند و حضرت
 ایشاں را پنج سالگذرا شیخ بعامیں بقارحدت نموده اند و ایشاں را والدہ
 ماجده پرمدش کرده چون بجدی بلوغ رسیدند با کمال صلاح و تقویٰ بکسب
 علم ظاہری شغول گشتند و در من بیست پنج سالگی بشیر بدی تشریف
 آورده اند والدہ تشریفیه خود را نیز بھراہ داشتند و در بدی پر تحصیل
 علوم مشغول شدند و بدرس مولانا شمس الدین خوارزمی که فاضل افراد کامل
 بود حاضری شدند اگرچہ مدار ملکت پادشاه عمر بمولانا مفوض بود و شمس
 الملک خطاب داشت اما تعظیم و احترام حضرت ایشاں را بیشتر از
 علماء و فضلاۓ شہر کردے و حضرت ایشاں حصور بودند هنر اپنے تشریف

جحرة نزدیک خانه حضرت شیخ نجیب الدین برادر حضرت گنج شکر داشتند.
 والده ماجده ایشان در همان ایام رحلت نموده چون قرب ظاهری بانی
 با شیخ نجیب الدین قدس سرہ واقع بود، اکثر بصحبت ایشان میرسیدند
 اعتقاد و اخلاص تمام در خدمت ایشان داشتند روزے از شیخ
 نجیب الدین التماں فاتحه نمودند که قاضی جائے شوم تا عدل و انصاف
 تسبیت بخلق لبکهور رسانم، حضرت شیخ جواب ندادند، باز مکرر التماں
 فاکه کردند، شیخ فرمودند، هرگز قاضی نشوی لیکن چیزی شوی که می میدانم و
 در آن ایام آوازه حالات و مقامات حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر عالم را
 فروگرفته بود، بعد از چند روز حضرت ایشان متوّجه به اجود صن گشتند و
 بشرف ملازمه حضرت پیر خود گنج شکر مستعد گردیدند و حضرت ایشان
 می فرمودند چوی به بیعت و مریدی حضرت گنج شکر مستوفی کشتم در آن زمان
 فقر و عسرت بر حضرت پیر غالب بود چنانچه در هفتة یک دور و زفاقه
 می شد و مریدیان هر کدام بصحر امی رفتند یکی و یکی که می آورد و یکی
 آب و یکی همیزهم می آورد و من آن را در دیگر اندانه می جوشانیدم و در کاسه
 کشیده بخدمت حضرت پیر خود گنج شکر می بدم یا آن افطار می فرمودند و
 با این در و ایشان قسمت می کردند و میسر نبود که نک در آن اندانه
 شود روزے اندک یکی قرض کردم و در آن اندانه می کردند و میسر نبود
 ایشان آوردم ازان تناول نه کردند و فرمودند که درین شبہ الیت،
 خوش کردم شیخ معین الدین و مولانا بدرا لین اسحق و شیخ یحیی جمال ہنسوی و

مولانا حسام الدین ہر کدام یک چیزے می آرند و فقیر می جو شانم و اعتیاط
 تمام بکار می بر کیم، شبیہ از کجا باشد، برائے حضرت ظاہر خواہد بود، فرمودند
 نمکے کہ دریں کردہ از کجا است گفتہم آنرا قرض کردہ ام، فرمودند درویشان از
 فاقہ بمیرند و از برائے لذت نفس قرض نکیزند، زیرا کہ در قرض و توکل بعد
 المشرقین است۔ بعد ازاں فرمودند کامہارا بردارید وابن ارشادے
 بود کہ میں کردند، یہ ازاں وقت شرط کردم کہ ہرگز بہیح حاجتے قرض
 نکنم۔ گلیکے کہ برائے نشستہ بودند میں عطا فرمودند دعا کردند کہ ہرگز
 محتاج قرض نشوی و وقت کہ مر الطرف دہی رخصت کردند و صیانت
 نمودند کہ بہ طریقے کہ باشد خصمان راخوش نہ کرداں دا گر قرض کسے داشت
 باشی باور سانی۔ چوں بدہلی رسیدم بخدمت حضرت شیخ نجیب الدین
 رفتم و فصلہ ملاز مرست واردات خود را کہ سجدت حضرت پیر خود نموده
 بودم، گفتہم، بسیار خوش و قریباً شدند، فرمودہ انکہ چوں بدہلی رسیدم
 جائے کہ تو اکم بفراغ خاطر مشغول باشم بزرگ در آں ایاهم حفظ قرآن
 میکردم و بصر ارفہ مشغول می شدم، روزے بکنارِ خوض قتلع رسیدم
 درویشی دیدم کہ صاحب حال بود، پرسیدم در شہر می باشید، گفت
 شہر جائے بودن و سکونت نیست، اگر حدادت عبارت میخواہی دشہر
 مباش۔ بیانے فتم و تجدید و ضنو نموده نماز کردم و مناجات کردم
 کہ الہی ہر جا کہ صلاح حال من باشد اشارت شود تا در آنجا سکونت
 نمائم آوازے شنیدم کہ جائے بودن تو غیاث پوراست، چوں

چنین اشارت شد غیاث پور را محلِ اقامت ساختم، چنانچه الحال روشن
 منتبر کرده حضرت سلطان المشائخ در هماج جاست و در غیاث پوره حجره
 ساخته بہدایت دار شادِ خلق مشغول شدن دل بسیارے روئے ارادت
 عقیدت باشان آورده از معاصی و مناہی و ملاہی بازمانند و امیر
 سیف الدین لاچین بالیسان خود عز الدین علی شاه و حسام الدین محمد
 و خواجه ابو الحسن خسر و تخدیث حضرت سلطان الاولیاء آمد و مرید شدن
 امیر سیف الدین مرد صالح بود و خواجه خسر و فرزند ایشان که از تعریف و
 توصیف مستغنی اند و ایشان در سن هشت سالگی مرید حضرت سلطان
 الاولیاء شده اند و عنایت آنحضرت در باره ایشان و اخلاص و اعتقاد
 ایشان در خدمت آن حضرت بد رجه کمال بود، ازان بود که بکمال رسید
 ایشان سلطان اشترار و بر هان الفضل آمد در جمیع طرز سخن و نظم و نثر
 بیکانه روزگار خود بوده اند و جامع بودند میان علم طاھری و باطنی و ریاضی
 و مجاہدت بر کمال داشتند. گویند بہر شب در تبریز هفت سیلی پاره
 قرآن میخوانده اند متن قول است روزی که متولد شدند، پدر ایشان
 را در پاره چیز پیمایدند نزد مجذوب بکه که بسیار صاحب حال بود، بر د
 آن مجذوب گفت آورده شخصه را که در قدم از خاقانی پیش خواهد
 بود و ایشان با کمالات طاھری و باطنی، علم موسيقی را جمیع ساخته
 بودند و درین فن کامل بودند در وش قول و ترانه که درین وقت مشهور
 است ایشان وضع نموده اند و پیشتر از ایشان

بوده۔ گویند عنایت حضرت سلطان المشائخ دربارہ ایشان بحدے بود که روزے فرمودند، از همہ تنگ آیکم و از توتنگ نیا یکم۔ یارِ دیگر فرمودند از همہ تنگ آیکم بحدیکه از خود تنگ آیکم آماز توتنگ نیا یکم۔ تعریف حضرت امیر خسرو ازین برشیتر چپ تو ان کردان۔

گویند سلطان علاء الدین بادشاہ دہلی برادر خود را تسبیح مملکتے فرستاده بودند تے بھیں گذشت و خبرے از ونداشت، شخصے بخدمت حضرت ایشان فرستاد و واقعہ را باز نمود و گفت میں نیز پاں طرف میخواهم لشکر بخشیم حضرت قدم رنجہ فرمایند و ہرچہ اشارہ شو دھنیاں کنم و خواست که بایں تقریب قدم مبارک ایشان بمنزل اور سند و ایں شرف را دریا پدر حضرت سلطان الاولیاء در مرافقہ شدند و بعد از زمانے سر برداشته باں شخص فرمودند کہ برو و سلطان بگوئے کہ فرد اخیرِ آں مملکت برسد و برادرِ شما نیز دریں زور دے با غنا یکم بسیار خواہم رسید چوں ایں بشارت بسلطان رسید بسیار خوشحال و مسرور گشت۔ روزِ دیگر شتر سوارہ میڑہ فتح آور دو سچنیاں شد کہ آں حضرت فرموده بودند سلطان پانصد دینار تر سرخ شکرا نہ بخدمت حضرت سلطان المشائخ فرستاد۔ درویش در خدمت ایشان حاضر بود، اسفندیار نام، گفت یا حضرت الہدایا مشترک ایشان فرمودند ما نہ خوشنتر کو آں پانصد دینار را با و عطا کردند۔ گویند ذوق و وجہ حضرت ایشان بدرجہ اعلیٰ و مرتبہ قصومی بود و سماع بسیا

می فرمودند، خوارق و کراماتِ حضرت ایشان زیاده از انسنت که اندر کے
از آن به تحریر در آید چوں سن مبارک ایشان به نزد و چهار سال رسید
تا هشت ماه از ایشان بول و برآز فلی ہر شد، خادم را فرمودند ہر چو
از نقد و جلس در مکان باشد حاضر گردان تا بستخان قسمت نمایم،
کفت ہر چچہ فتوحِ می رسید تام وزن بیکمی ماند، چند ہزار من غله در
انباء است که بفقر اینکے سچنتمی شود، فرمودند رو و بمصرف رسان،
بعد از آن جامہا تے خاص خود را طلب یدند و بخلاف عطا نمودند و ہر کیے
را بجاتے فرستادند و حضرت شیخ نصیر الدین حاضر بودند با ایشان
نمداوند تاروز چهار شنبه شد، ایشان را طلب فرموده خرقہ و عصا و
تبیح و کاسه چوبین و آنچہ از پیر خود حضرت گنج شکر یافتہ بودند با ایشان
عنایت کردند رجانتین خود ساخته برجست حق پیوستند۔

وفاتِ حضرت ایشان روز چهار شنبه ہر دیم ماه ربیع الآخر سال
سال هفتصد و پیسیت و پنج ہجری واقع شد و مرقدِ شریف ایشان
در دہلی نواست درین وقت خواجه خسر و یا سلطان غیاث الدین بن کالہ
بودند چوں ایں خبر شنیدند بے رخصت سلطان متوجه دہلی گشتند و مزار
پر انوار آن حضرت رسیدند مقابل قبر باستادند و گفتند، سبحان اللہ
آفتاب زیور زمیں و خسرو زندہ بر وئے آن - روئے گرد آلو دخود را بآں
مرقدِ منورہ سودہ بیہوش شدند و جامہائی سیاہ پوشیدند و بعد از سه
و نیم ماه ایشان نیز رحلت نمودند و در پایے پیر خود مدفن گشتند۔

ذکر قدره عارفان و خلاصه کاملان مکمل غوآص لجنه

معتر در دریا تے حقیقت آسمان جہاں ولا بیت
قطب فلک کرامت شیخ المشائخ حضرت خواجہ شیخ
نصیر الدین محمد اودھی قدس اللہ تعالیٰ صریحہ

از اکابر دین و بنزركان صاحب لقین بوده اند و حالات و مقامات علیہ
کشف و کرامات جلیلہ داشته اند تولد ایشان در شهر اودھ بوده والیشا نہ
والد بزرگوار نہ سالہ گذاشته از عالم رحلت نموده والده ماجده در پور
تعلیم علوم دینی ایشان مسامی جمیلہ نمود، علوم طاہری راتا بیست و
پنج سالگی کسب نمودند بعد از آن در تحصیل کمالات باطنی مشغول
گشتند و ریاضت و محابہ تے عظیم داشتند و مدت هفت سال با یک
دو درولیش تا نماز جماعت فوت نشود در صحراء رفتہ مشغول می شدند و
کثرا فطر ایشان به برگ سنبھالا بود چون چهل و سه ساله شدند مسافر گشته
بدیلی رسیدند و لبسعادت ارادت حضرت سلطان الاولیائی شیخ نظام الدین
محمد بادوی قدس اللہ صریحہ مشرف شدند و در خدمت پیر خود بطلب حق

مشغول می بودند و ایشان را در او و هر خواهش رے بود رابعه وقت بجهت
تفقد عالیہ مشیره از پیر خود رخضت شده بیشتر او و هم میر قلندر بازمی
آمدند و اکثر در خانه شیخ برہان الدین غریب که یکی از خلفاء حضرت سلطان
الاولیا بود می بودند. حضرت سلطان الاولیا کلاه نمدی شیخ برہان الدین
عنایت کرد ه بودند و آن کلاه کم شده بود ایشان جهت بسیار ملول و ملکیں
می بودند روزے ایشان در مراقبہ بودند و شیخ برہان الدین آن دهناک
نمودیک ایشان نشستند چوں ایشان سر برده داشتند شیخ را بایار
متا لم یافتد سبب آن پرسیدند، گفتند کلاه مبارک پیر و شنگیر کم شده
با ز مرافقه نموده بمربره آورده و فرمودند اند و یکین می باشد که کلاه را خواهد
یافت باز یادتی، روز دیگر چوں شیخ برہان الدین بخدمت حضرت
سلطان الاولیار قلندر آن حضرت مصلائی صفت خاص را بایشان
عنایت کردند و شیخ مسرور و خوش وقت بخانه مراجعت نمودند و بجهت
نگاهداشت مصلایقچه و اگر دنداز اتفاقات حسن کلاه را در آن لقچیه یافتد
و شکر حوت بجای آوردند، ایشان فرموده اند که حوت کسوت اینست که گندم
نماید و فروش نماید بود، چنان بایک شید و وفا باید نمود، اگر سلطان الاولیار
نمی فرمودند که در شهر پاش و جفا بکش، هر گز مرا بینست در بودن آبادان
بنود، در کوهستان و بیابان شغول می بودم - گویند حضرت ایشان
بر سنت پیر خود عمل نموده متا هل نشده اند و حصور بوده اند و خلفاء
حضرت سلطان الاولیا بوجود ایشان تفاخر می نمودند استغراق و

تسلیم و رضائے حضرت شیخ بدر جہا اعلیٰ بود چنانچہ روزے در ججرہ خود مشغول
 بودند قلندرے ترا می نام کر خاک پرسش باد ججرہ ایشان در آمد و یاند ده
 زخم کار دبر و جو د مبارک حضرت شیخ زده خون از ججرہ بیرون روای شد،
 نماد ماں خبر دار شدہ ججرہ در آمدند و حال را چنیں دیدند و حضرت شیخ
 بحال خود مستغول بودند و اضطراب مداشتند، مریداں خواستند که قلندر
 بدجنت را آزار رسانند، ایشان منع فرمودند که هیچ کس بیچ و عجہ با او آنرا
 رساند و بیست تملکه به قلندر انعام فرمودند و عنده خواستند که مبارک داده است
 ترا در وقت کار و زدن آزارے بر سیده باشد، بعد ازین قضییہ سال
 دیگر در حیات بودند و در تہریم ماه رمضان المبارک شب جمعہ
 رحلت ایشان روتے داده و در حین رحلت مولانا بن الدین علی که
 مرید و خادم بود عرض کرد که خلفائے بزرگ و مریدان حضرت بسیار آنده
 یک را ترقه خلافت و جانشینی غنایمت شود، فرمودند نام ہمہ را نوشته
 بیارید، چنیں کردنک چوں نام ہمہ راشنیدند فرمودند بایشان بگو کہ غم
 ایمان خود بخورید، چہ جائے آنکہ بار دیگر ای بردارید و وصیت کر دند
 که خرقہ حضرت پیر دستگیر را وقت دفن بر سینہ میں بگذارید، و عصارا
 برای من در الحدیہ بسیم و تسلیح را در آنگشت شہارست میں خواہیم دید
 پیچید و کاسہ چوبیں را در زیر سر بجاتے خشت و نعلین را در آن گوش
 میں خواہیم دید گذاشت مریداں و خادماں بمحوجب و صیتیت ایشان عمل
 نموده - وفات ایشان در تہریم ماه رمضان المبارک وقت چا

سالِ هفت صد و پنجاه و هفت هجری روتے داده۔ مرفود در بیرون
دہلی نواست۔

خاتمه پدانکه چوں ایں ضعیفہ راجیہ بعد از ادائے فرائض و
واجبات و تلاوت قرآن مجید پس امیر شریف ترازو ذکر حالات و مقامات اولیاً
کرام قدس اللہار واحدهم نمی داند بناء برائ خلاصہ اوقات خود را بسط العہ
کتب رسائل کے مشتمل بر احوال سعادت مال بندرگان دین و اکابر صاحب
یقین است صرف می نماید کمال اخلاص و عقیدت مندرجی ایں فقیرہ
را برائ داشت که مختصرے از احوال حضرت پیر دستگیر و خلفائے بزرگ
آل حضرت راروح اللہار واحدهم تحریر نماید۔

الحمد للہ والمنته کہ تبو فیقات خدا تے علیم و قادر و عنایات حضرت
پیر دستگیر بیں مطلب خود فائز گردید و ایں رسالہ مونس الاراد اح
بتاریخ بیست و هفتم ماه مبارک رمضان سال یکهزار و چهل و نہ
ہجری یا تمام رسید و خلعت اختتام پرسید و احوال ایں بندرگان را
کہ مقرر بیان درگاہ صدیت انداز کتب رسائل معتبرہ باحتیاط تمام بیڑیں
آورده بقید تحریر آورده شد و باعتقد ایں ضعیفہ آنچہ دریں ثابت
گردیده صحت تمام دارد، امید کہ خوانندگان را فتنیض و بہرہ
تمام ازال حاصل آید۔

نهادہ شد

ذکر حضوری و نذر امام عقیدت

بعد از حمد خدا تے احمد و صمد جل جلاله ولپس از درود رسول او محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میگوید فقیرہ و حقیرہ چہاں آرا کہ چوں از یادتی
نخت و فرد زئی طالع از دار الخلافہ اکبر آباد در خدمت والدین برگوار خود
متوجه خطہ پاک حضرت اجمیر بے نظیر شدم از تاریخ شعبان ماه ۱۴۳۷ھ
معظم سنه یکم زیارت پنجاہ و سه هجری تاریخ جمعہ هفتم ماه رمضان المبارک
که داخل عمارت کنارِ تعالی آنسا گشتیم، موفق شدم بیس معنی که ہر دوز و
ہر منزد دور کعت نماز نافله ایامیکردم و یکبار سورۃ یسوس بافاتحہ
از روئے کمال اخلاص و عقیدت مندی خوانده تو اپ آنرا بر فرج
پر فتوح مطہر و منور حضرت پیر دستگیر خواجہ معین الحق والدین رضی اللہ
تعالی عنہ نشاری نمودم و چند روز که در عمارت مذکور توقف واقع شد
از نہایت ادب شبهہا بر پنگ خوابیدم و بطرف روضہ متبرکہ حضرت پیر
دستگیر پادر از نساختم، بلکہ پشت بآں جانب نکردم و در زیارتیں ...
در تعالی میگذرانیدم و به برکت آں حضرت واثر فیض ایں سرز میں حیثیت
آئیں جمعیت و ذوق ہاروئے یہاڑو یک شب مولود و چنانچہ خوبی
کردم و در زینت خدمت و خدمت آنچہ از دست آمدہ و خواہد آمد

تقصیری نه خواهیم کرد. الحمد للہ والملائکة وصلی اللہ علیہ وسَلَّمَ وصلی اللہ علیہ وسَلَّمَ بیکار شکر کے پے روز
 پنجشنبہ چهاردهم ماه رمضان المبارک سعادتِ زیارت مرقدِ منور
 مُعطر حضرت پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل شد: یک پھر روز
 مانده یہ وصیۃ مقدسہ رفتہ دُرخ زرد خود را بخاک آں آستان سواد
 واز دروازہ تاگنبدِ مبارک پائے برہنہ وزیریوس کنان رفتہ دا خل
 رو فہمہ شریعت شدہ ہفت مرتبہ گرد قبر پور پیر خود گشتم و بکش رکان خود
 جاروب کردم و خاک خوشبوئے آنجا را تو تیار چشم خود ساختم، دران
 وقت عجیب حالتے وذوقے باں فانیہ روئے دادکہ تحریر راست نہی آیا
 از نہایت شوق سراسیمہ شدہ بودم، نمیدانستم کہ چہ گوکیم وچہ کنم القصہ
 عطر و عنبر اول بر قبر مُعطر و معتبر آخر حضرت بدست خود مالیدم و چادر لگل کہ
 بر سر خود برد اشتہ آوردہ بودم بر بالائے قبر مبارک اندراختیم و در مسجد
 سنگ طریکہ پدر بزرگوار حق شناس ایں حقیرہ راست کردہ اند رفتہ
 نماز ادا کرده و باز در گنبدِ مبارک نشستہ سورہ جیسی وفات ہبڑو ح
 پُر فتوح خواندم و تا وقت نماز مغرب در آنجا بودم و شمع بر وضمہ آنحضرت
 روشن کردہ روزہ باپ جھالرہ افطار کردم۔ عجب شامے دیدم آنجا کہ
 بہتر از صبح بود اگرچہ اخلاص و محبت عقیدت فانیہ تقاضا یے ایں نہی کرد
 باں قسم جائے پر فیض و گوشہ عافیت رفتہ باز شجانہ بیایدی ماچہ چارہ
 رشته در گرد نم افگنده دوست
 می برد ہر جا کہ خاطر خواہ اوست

اگر اختیار می داشتم سہی شه در روضه آں حضرت کے عجب گوشہ عافیت
 است و من عاشق گوشہ عافیت هستم، بسر می بردم و بسعادت طوف
 نیز مشرف می شدم، ناچار بخشید کریاں و دل پریاں بصد هزار افسوس
 ازان درگاه رخصت شده بخانہ آمد و تمام شب طرفہ بیقرار می درن
 بود صبح آں روز جمعہ والدین برگوارم کوچ فرموده متوجہ اکبر آباد شدند
 ایں کتاب پست طاب پشیرین مبنیف را کہ ایں حقیرہ احوال یا مکمال سعادت
 اشتمال حضرت پروردستگیر رضی اللہ عنہ را از کتب رسائل معتبر حسب
 المقدمہ در بحث رسائیدہ نذر آنحضرت کرد کہ سہی شه در روضه معتبر کرد
 ممنورہ بودہ باشد امید از کریم دریم و لطفت عجیم آں حضرت آئست
 کہ ایں رسالہ را از مکترین مریدان عقیدت نشان خود قبول حناص
 فرمایند و خوش کنند و توجہ بپریں مرید داشته باشند

معین الدین ما فانیست در حق
 ازان باقی شده در ذات طلق


تازنخ رحلت خضرخواجہ مُعین الحق والدین حشمتی، سنجیری، اجمیری

فیض نجاشی جهان بعلم و نعمت
خواجہ شق شما مُعین الدین!
رونق خاندان حشمت از وست
زیست روضه برشت از وست
سنجیری حشمتی است آن فیاض
هادی و هبدهی است آن مرتاض
جمعه و ششم رجب بوده!
کن جهان خواجہ نقل فرموده
سال تقلش سخوان بصدق و صفا
بیگان زیبِ حبت دالا

۳۳۶


(از مجموعه اوصاف)

درگاه معلیٰ حضرت خواجہ معین الدین حشمتی غریب نواز




در اجمیع شرکتی هند


”بلند دروازه“ درگاه حضرت خواجه عرب پ نواز



ماں پر خداوند کی نعمت
کے ساتھ ملے گا اور
خداوند کی نعمت کے ساتھ
میں اپنے بیٹے کو ملے گا




مَزَارِ فِيضِ اثَّارٍ
حضرت خواجہ قطب الدین جنتیار کا کی قدس اللہ سرہ



درد ہلی (ہند)


مزار فیض آثار
حضرت شیخ فرید الدین گنج شاکر قدس اللہ سرہ



د در پن مغربی پاکستان)

مَزَارِ پُر آنوار


حضرت خواجہ نظام الدین سلطان الاولیاء قدس اللہ عزیز علیہ السلام



در دہلی (ہند)

مَزَارُ مُبَارَك


حضرت خواجہ امیر خسرو سلطانُ الشعرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ



در دہلی (ہند)

Marfat.com

مقبرہ جہاں آرائی گم بنت شاہ جہاں بادشاہ ہند
دردہلی (ہند)



کُتُبِ دِرْبَرَه از مَطْبُوعَاتِ شَاهِ ابوالْخَيْرِ کَادِمِی

رسالَةُ وَحْدَةِ الْوَجُودِ وَشَهْوَدِ الْحَقِّ مِنْ كُلِّ مَوْجُودٍ

تایینی است نادر و گرانقدر از
علامه عبدالعلی بحرالعلوم کاھنی

بربان فارسی کرد رآن تشریفات عالمانه و عارفانه راجع به سلسله وحدة الوجود، بطریخوب بیان کرد اند
و مقابل آن نظریه وحدة الشہود را که اختصاص به امام ربانی مجید الفیثی دار و خود ایشان
در مکتوبات شریفه تفصیل و تفسیر آن ارقام فرموده اند، آن همه توضیحات و افادات راحضرت علامه
شاه ابوالحسن زید فاروقی مجیدی ادام اللہ برکاتہ لبیعی و اهتمام تمام جمع نموده اهمیت و افاده ایت
رساله را افزوده اند و بین طور حقیقت هر دو نظریات مذکوره واضح ترمی شود. الحق که این رساله جامع فسبت
باین نظریات درج است دارد ————— در ابتداء کتاب احوال شیخ محب الدین ابن عربی و علامه
عبدالعلی بحرالعلوم ہم مندرج است کتابت طباعت عمد زنگین گردپوش، قیمت مجلد ۳۵ هندستانی
عرفانیات باقی | مجموعه کلام فیض النیام حضرت خواجہ باقی باشہ قدس اللہ سرہ العزیز من احوال
کرامت مآل که از کتب معتبر بکمال وضاحت بربان فارسی وارد و ترتیب
یافته ایں کلام معارف نظام کیا ب بلکہ نایاب بود، الحال تفحیص نام از چند نسخ خطی مقابلہ نموده صحیح تام
بمنقصہ شہود آمده است. رجاکه اهل سینیش و دانش و عقیدت مندان خواجہ مستفید و بهره مندمی شوند عکس
مکتوب گرامی حضرت امام ربانی مجید الفیثی که بخط مبارک خود ایشان نوشته اند و تمثیلات مزار پر انوار
خواجہ ہم شامل کتاب است که زینت دار زشن را درو بالا کرده است.

زنگین و دیده زیب سرور قیمت ۵۰ هندستانی

از کتابخانہ های مذکورہ ذیل طلب بفرمایند :-

- ① حاجی عبدالغفار داولاده تا جران کتب ارگ بازار قندھار (برائے افغانستان)
- ② کتابخانہ انجمن ترقی اردو ہمیت صل جامع مسجد شاہجهانی (برائے ہندستان)